

خواہین اور بیسائیں

(سوالات و جوابات)

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پرنسپلیٹ (پرنسپلیٹ) لمبیڈ
۱۳۱۰ءی، شاہ عالم مارکٹ، لاہور۔ (پاکستان)

(جملہ حقوقِ حق ناشر محفوظ ہیں)



کام کتاب: خواتین اور دینی مسائل

مصنف: سید ابوالاعلیٰ مودودی

اعداد: ایڈیشن اشاعت:

۱۔ تا ۸۔ مئی ۷۱۹۸ء تا اکتوبر ۱۹۹۸ء ۸۱۸۰۰

۱۱۰۰ ۹۔ مئی ۲۰۰۰ء

اهتمام: پروفیسر محمد امین جاوید (میمنگ ڈائریکٹر)

ناشر: اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳۔ ای، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

فون: 7658674 فیکس: 7664504-7669546

ای میل: islamic@ms.net.pk.

مطبع: تجیر پرنس، لاہور

فہرست مضمون

عوامہ

- | | |
|----|-----------------------------|
| ۹ | دہلی اور دہلیت |
| ۱۰ | حضرت خواکی پیدائش |
| ۱۱ | الیصال ثواب |
| ۱۲ | اصحاب قبور سے درخواست دعا |
| ۱۳ | بزرگوں کی حرمت رجاء سے توسل |

- | | |
|----|---|
| ۲۱ | صلوٰحیات انبی |
| ۲۲ | علم غیب - حضرت ناظر اور غیر اللہ کے یہ بحدہ |
| ۲۳ | خواب میں زیارت بودی |
| ۲۴ | سحر کی حقیقت اور معوقہ تین |
| ۲۵ | گھر گھوڑے اور عورت میں نبوست |
| ۲۶ | شفاعت کا صحیح تصور |

عبدالات اور فقہی مسائل

۷۵

اذان اور نماز کی دعائیں کے بارے
میں چند شہمات

۵۱

اجنبی ماحول میں تبلیغِ اسلام

۵۶

کیا مرد نے کی طاقت کے باوجود فدیہ دیا جا سکتا ہے؟

۶۵

جرالوبس پر

معاشرتی مسائل

۷۸

مہر غیر موجع کا حکم

۷۹

غیر محروم قریب اعزہ سے پرداہ کی صورت

۸۰

پرداہ کے متعلق چند عملی سوالات

۸۱

رسموں کی شرعیت

۹۶

آلات کے ذریعے تولد و نسل

۱۰۱

اسلام اور آلاتِ موسیقی

۱۰۳

گرڈوں کا حکم

۱۰۴

اشتہاری تصویریں

۱۰۵

کنیز کی تعریف اور اس کے حلal ہونے کا حکم

۱۰۶

تعذر ازدواج اور لونڈریاں

- ۱۱۷ تعددِ ازدواج پر پابندی
- ۱۱۹ تو ام متعدد الجسم لڑکیوں کا نکاح
- ۱۲۵ حلقِ جبل از نکاح
- ۱۲۶ عدالتِ خلُع
- ۱۲۷ ضبطِ ولادت
- ۱۲۸ ضبطِ ولادت اور وجوہتہ کا لینیں
- ۱۳۵ کفارتہ جرم اور کفارت کا مسئلہ
- ۱۳۶ عاملی قوانین اور قانون شریعت
- ۱۳۷ منکوحہ کتابیہ کے لیے آزاری عمل کی حدود
- ۱۳۸ نکاحِ بلا فہر
- ۱۳۹ اللہ کے حقوق اور والدین کے حقوق
- ۱۴۱ پرده اور پسند کی شادی
- ۱۴۲ پسند کی شادی میں رکاوٹیں
- ۱۴۳ فقط نکاح کا اصل مفہوم
- ۱۴۵ عورت کی عصمت و عرفت کا مقابل
- ۱۴۸ بیوی اور والدین کے حقوق
- ۱۴۰ قرآن میں زنا کی سزا
- ۱۴۸ دارالاسلام اور دارالکفر کے مسلمانوں میں دراثت و میراث کے تعلقات

کیا بالغ عورت خود اپنا مدخل کر لینے کی جائز ہے ؟

شادی بیاہ میں کفارت کا لحاظ

نکاح شفار

منگنی کا شرعی حکم

کیا بُر قعہ پر دسے کا مقصد پورا کرنا ہے

عورت اور سفرج

درافت میں اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ

حرمات کی حرمت کی وجہ

عورتوں میں ہم جنیت

نیک چلنی کا انوکھا تصور

نیک بھی عیب ہے !

سترق مسائل

بیہ کا جواز و عدم جواز

اسلامی حکومت میں خواتین کا دائرہ عمل

ہے جیاں کے منظاہر اور قانون اسلام

قدیم تصوریہ

رشوت اور اضطرار

اسلام اور سننِ القرآن

دعا میں بزرگوں کی حرمت درجہ سے توسل

ندروشیاز اور العصاں ثواب

نمایز کی قصر و فضاد

۲۰۱

۲۰۳

۲۰۸

۲۱۳

۲۱۵

۲۱۷

۲۲۳

۲۲۹

دیباچہ

ماہنامہ ترجمان القرآن میں مختلف سائل و موضوعات پر لوگوں کے سوالات اور مولانا سید ابوالاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات رسائلِ سائل کے نام سے چار مجموعوں کی صورت میں شائع ہو رچکے ہیں جن کے متعدد ایڈیشن اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ ان کی علمی افادیت اور علمی درہنگائی کو حسن قبول حاصل ہوا ہے۔ سوالات مختلف تمدین، سیاسی، معاشی اور فقہی معاملات و امورِ پشتیل میں اور مولانا مرحوم نے ان کے ایسے جامع اور مختصر جوابات دیئے ہیں کہ سوال کرنے والوں کی ہی الگ ہن درود نہیں ہو جاتی عام قارئین کو بھی معلومات درہنگائی کا ایک بیش بہا خزانہ میرست آ جاتا ہے۔

ان سوالات و جوابات میں بے شمار ایسے سائل بھی زیر بحث آئے ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں یا جن کے اسے میں خواتین بھی علم درہنگائی چاہتی ہیں۔ رسائل و رسائل کی چاروں جلدیوں میں ایسے سائل بھروسے ہوئے تھے لیکن خردت اس بات کی تھی کہ خواتین کو کمیا اپنی دلچسپی کے تمام رسائل اور ان کا حل اس طرح مل جائے کہ انہیں رسائل و رسائل کی مختلف جلدیوں میں انہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ اس خردت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے رسائل و رسائل کی چاروں جلدیوں سے اختیاب کر کے خواتین کی دلچسپی کے سوالات و جوابات کو الگ مختلف عنوانات کے تحت مرتب کر دیا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ اس مجموعہ کو جسے ہم نے ”خواتین اور زنی رسائل“ کا نام دیا ہے، خواتین کے حلقوں میں خاطر خواہ پذیرائی حاصل ہوگی اس کو شمشش کو اور زریادہ مفید دموٹرنیزنس کے سلسلے میں شوروں کا نام صرف خیر مقدم کی

جائے کا بلکر یہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ ایڈیشن ان مشوروں کی روشنی میں زیادہ بہتر اور مفید تر بنانے کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو جاننے اور اس کو اختیار کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمين۔

عبدالوحید خان

۱۹۸۳ء
۵ فروری

دینِ اسلام کا تحریر وال تحریخ

عظامہ

وہاںی اور وہابیت

سوال :- فرقہ وہابیہ کا بانی کون تھا ؟ اس کے فضوص عقائد کیسے تھے ؟ پندرہو سو سال میں اس کی تعلیمات کس طرح شائع ہوئیں ؟ کیم علما نے اسلام نے اس کی تردید نہیں کی ؟ اگر کی ہے تو کس طریقہ پر ؟ آیا اس فرقہ نے اشاعت اسلام میں حصہ لیا ہے یا خالفت اسلام میں ؟

جواب :- وہاںی دراصل کسی فرقہ کا نام نہیں ہے۔ بعض مistrad طعن کے طور پر ان لوگوں کے لیے ایک نام رکھہ دیا گیا ہے جو یا تو اہل حدیث میں، یا محمد ابن عبد الوہاب کے پیروی میں۔ اہل حدیث کا مسئلہ تو قیدیم ہے۔ اللہ ار ربعہ کے زمانے سے چلا آتا ہے۔ اہدیہ ان لوگوں کا گردہ ہے جو کسی امام کی تقلید اختیار کرنے کے بعد نے خود حدیث و قرآن سے احکام کی تحقیق کرتے ہیں۔ رہے محمد ابن عبد الوہاب کے پیروی۔ تو وہ دراصل خبلی طریقہ کے لوگ ہیں۔ ان کی فقہ اور ان کے عقائد وہی ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ پندرہو سو سال میں یہ فرقہ لذکر گردہ غالباً کہیں موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہاں وہاںی کہا جاتا ہے وہ دراصل پہلے گردہ کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اول اول نہادت

اچھا کام کیا اور اب بھی ان میں اپنے افراد پابند جاتے ہیں۔ مگر ان میں بہت سے چاہلے اور جنگل الو آدمی بھی شامل ہو گئے ہیں جو خوانخواہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر بحث و مناظرہ کا بازار گرم کرنے پھرتے ہیں۔ اور ایسے ہی چاہل خود حنفی کہلو نے والے گروہ میں بھی بکثرت موجود ہیں۔ یہ ساری مناظرہ و مباحثہ اور فرقہ بازی کی گرفتاری بازار اپنی ورنہ فریقوں کی برکت ہے۔

سوال :- کیا حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گی ہے کہ بندس سے ایک فتنہ اٹھے گا؟ کیا یہ حدیث مذکورہ بالا فرقہ پر منطبق ہوتی ہے؟

جواب :- نجد یا مشرق کی طرف سے ایک فتنہ اٹھنے کی خبر تو حدیثیں دی گئی ہے مگر اس کو محمد بن عبد الوہاب پر چھپا کر نامعن گردہ بندی کے اندر سے جو شی کا نتیجہ ہے، ایک فرقی جب درسرے فرقی سے لڑنا چاہتا ہے تو ہر تھیار اس کے خلاف اتنا حال کرنے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ خدا اور رسول کو بھی ایک فرقی چنگ بنانے میں دریغ نہیں کرتا۔

ترجمان القرآن، رجب شوال ۱۴۲۴ھ، جولائی ۲۰۰۳ء

حضرت خواجی پیدائش

سوال ۱۔ حضرت خواکی پیدائش کے متعلق تفہیم القرآن جلد اول صفحہ ۲۱۹ میں جواب نے تعریج کی
ہے کہ آدم کی پسل سے نہیں ہوئی۔ حدیث بحدی خلقتہ من ضلع آدم کا کیا جواب ہوگا؟
جواب۔ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت خواکو آدم علیہ السلام کی پسل
سے پیدا کیا گی تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس خیال کی تائید میں جو چیز پیش کی جاسکتی ہے
وہ قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ خَلَقْكُمْ مِنْ نُفُسٍ وَاجْدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا
ذُو جَهَنَّمَ (النساء - ۱) اور حَعَلَ مِنْهَا ذُرُوجَهَا رَالاعراف - ۳۴

ان دونوں آیتوں میں میٹھا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ "اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا" اور یہ بھی کہ "اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا" ان دونوں میں سے کسی معنی کو بھی تزییح دینے کے لیے کوئی دلیل قرآن کی ان آیتوں میں نہیں ہے بلکہ قرآن کی بعض دری آیتیں تعدد سے معنی کی تائید کرتی ہیں۔ مثلاً سعدہ ردم میں فرمایا وَ مِنْ أَيَّامِهِ أَنْ خَلَقَ كَلْمَدْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْفَأْجَا رآیت ۱۰۰۔ یہی مضمون سعدہ کی خل آیت ۱۰۰ میں بھی آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں آیتوں میں منْ أَنفُسِكُمْ کے معنی منْ جُنْبِكُمْ ہی یعنی جانشی گئے، نہ یہ کہ تمام انسانوں کی بیویاں ان کی پسلیوں سے پیدا ہوں ہیں۔ اب اگر پہلے معنی کو تزییح دینے کے لیے کوئی بیان مل سکتی ہے تو وہ حضرت ابوہریرہؓ کی وہ روایات ہیں جو بخاری وسلم نے نقل کی ہیں مگر ان کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں کہ ،

المرأة كالضلع ان اقتتها كسرتها وان استمتعت

بها دفيها اعوج -

عورت پسل کے مانند ہے اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑے کا اند لگراس سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کے اندر کچی ہاتھی رہتے ہوئے ہی فائدہ اٹھائے گا ۔

اور دوسری روایت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کیے

میں :

اسْتَقْوَصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خَلْقٌ مِنْ ضَلْعٍ
وَانْ اعوجَ شَيئٌ فِي الضَّلْعِ اعْلَاهُ فَانْ ذُجِبتْ

تفیہ کسرتہ دان ترکتہ نہ یزل اعوج فاستوصو
جالنساء خیوا۔

عورتوں کے معاملے میں بجلائی کی نصیحت قبول کردیونکہ وہ پسل سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور پسل کا سب سے ثیر حاصلہ اس کا بالائی حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کارنے کی کوشش کرے تو اس کو قوڑے کا اندھا جھوٹ دے تو وہ ثیر می ہی رہے گی۔ لہذا عورتوں کے معاملے میں بجلائی کی نصیحت قبول کرو۔

ان دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث تلوہ عورت کو پسل سے غضن شبیہ دے رہی ہے۔ اس میں سرے سے یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ پسل سے پیدا ہوئی ہے۔ البتہ دوسرا حدیث میں پسل سے پیدائش کی تصریح ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ اس میں حضرت حوا، یا پہلی عورت یا ایک عورت کی نہیں بلکہ تمام عورتوں کی پیدائش پسل ہی سے بیان کی گئی ہے۔ کیا فی الواقع دنیا کی تمام عورتیں پسلیوں ہی سے پیدا ہو اکر تی ہیں؟

لہ یہ الفاظ بخاری، کتاب التکاچ والی روایت کے ہیں۔ دوسرا روایت میں جواہم بخاری نے کتاب احادیث الامیا میں مختص رکھی ہے اس کے الفاظ ہیں : فان المرأة خلقت من ضلع " کیونکہ عورت پسل سے پیدا کی گئی ہے ۱۰۰ اس صورت میں المرأة سے مراد ہر عورت، اور عورتوں کی پوری صنف ہو گی ذکر وہ ایک خاص صفت جو دنیا میں سب پہلے پیدا کی گئی۔ اس سلسلے میں یہ بات حیرت انگیز ہے کہ سال ستمہ سو کے حوالے سے خلقت ہن ضلع آدم کے الفاظ نقل کیے ہیں جو الحد بخاری میں کسی جگہ بھی یہ الفاظ نہیں آئتے ہیں۔

اگر یہ بات نہیں ہے اور خدا ہر سے ہے کہ نہیں ہے تو ما نخا پڑھے گا کہ یہاں خُلُقُنَ مِنْ
حَلَمٍ كَيْفَ ئَلْفاظُ اسِّ مَعْنَى مِنْ نَهْيَنْ ہیں کہ وہ پسل سے پیدا کی گئی یا بنائی گئی ہیں، بلکہ اس
معنی میں ہیں کہ ان کی ساخت میں پسل کی سی کجھی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کی یہ آیت
کہ خُلُقُ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ۔ اس کے معنی بھی یہ نہیں ہیں کہ انسان جلد بازی سے
پیدا کیا گیا ہے، بلکہ یہ ہیں کہ انسان کی سرشست میں جلد بازی ہے۔

اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پسل سے حضرت حواری کی پیدائش کا خال
قرآن ہی میں نہیں حدیث میں بھی کسی مغبوط دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ البته یہ صحیح ہے کہ بنی
اسرائیل سے یہ روایت نقل ہو کر مسلمانوں میں شائع ہوئی اور بڑے بڑے لوگوں نے نہ
اسے قبول کیا بلکہ اپنی کتابوں میں ثابت کر دیا۔ مگر کیا یہ صحیح ہے کہ الشرا احمد رسول کی سند
کے بغیر مغضوب رہے لوگوں کے اقوال کی بنابر اسے ایک اسلامی مقیدہ تحریر دیا جائے اور
جو کوئی اس پر ایمان نہ لائے تو کہاں قرار دیا جائے؟

الیصالِ ثواب

سوال :- سند رجہ ذیل احمد میں آپ کی رہنمائی درکار ہے مجھے امید ہے
کہ حسب معمول واضح جواب عنایت فرمادیں گے۔

ا۔ رسائل دسائل حصہ دسم صفحہ ۲۹۶ پر ”تذکرہ نیاز اور الیصالِ ثواب“ کے
عنوان کے تحت جو جواب آپ نے رقم فرمایا ہے اس سے یہ تبادر ہوتا ہے کہ آپ اس امر کے قابل ہیں کہ مالی عبادت سے الیصالِ ثواب ہو سکتے ہے مگر
بدلی عبادت سے نہیں۔ اور چھر آپ مالی اتفاق کے بھی متوفی عزیزی کے لیے

نافع ہونے کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف قرار دے رہے ہیں۔ کیا آپ
کے استدلال کی وجہ ہے کہ اس امر کی بابت کوئی صراحت قرآن حديث
میں نہیں ہے کہ بدلتی عبادات میں الیصالِ ثواب ممکن ہے؟ یا کوئی اور سب
ہے؟

آپ خود الیصالِ ثواب کرنے والے کے لیے تو انفاق کو بہر حال نافع قرار
دے رہے ہیں مگر متوفی عزیز کے لیے نافع ہونے کو اللہ کی مرضی پر موقوف
قرار دے رہے ہیں۔ اس تفریقی کی اصل وجہ کیا ہے۔

۲۔ کیا ہر شخص ہر دوسرے متوفی شخص کو (خواہ متوفی اس کا عزیز ہو
یاد ہو، یا متوفی نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی تسبیت میں حصہ لیا ہو
یا ان مالی انفاق کا ثواب پہنچ سکتا ہے یا کہ اس کے لیے آپ کے نزدیک
چند قیود و شرائط ہیں؟ انداہ کرم اپنی رائے تحریر فرمادیں۔

جواب ۱۔ آپ کے سوالات کے فتنصر جوابات لبرواره دلچ فیل میں:-
در اصل تو قرآن و حدیث سے عام قاعدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا عمل
ہی اس کے لیے مفید ہے، ایک شخص کا عمل دوسرا کے لیے آفترت میں مفید نہ
ہو سکا۔ لیکن بعض احادیث سے یہ استثنائی صورت بھی معلوم ہوتی ہے کہ الیصالِ ثواب
بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی جتنی احادیث بھی ہیں میں ان سب میں کسی خالص
بدلتی عبادات کا ذکر ہے جو یا تو صرف مالی عبادات ہے جیسے صدقہ، یا مالی و بدلتی عبادات
میں جملی ہے، جیسے نجع۔ اسی بنابر فقہاء میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک گروہ سے مالی اور
بدلتی عبادات دونوں میں جاری کرتا ہے اور دوسرے اگر وہ اس کو ان عبادات کے لیے

خصوص کرتا ہے جو یا تو خالص مال عبارات ہیں یا جن میں بدفن عبارت مال عبارت کے ساتھ ملی ہے۔ میرے نزدیک یہ دوسرا ملک اس لیے مرد ہے کہ قاعدہ کلیہ میں اگر کوئی استثناء کسی حکم سے نکلا ہو تو اس استثناء کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے جس حد تک وہ حکم نے نکلا ہے۔ اسے عام کرنا میری رائے میں درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے گردہ کے ملک پر عمل کرتا ہے تو اسے طامت نہیں کی جاسکتی۔ یہ تو کہ شرعاً میں اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف صرف ترجیح کا ہے۔

رہی یہ بات کہ العصالت ثواب کامیت کے لیے نافع ہونا یا نہ ہونا اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، تو اس کا سبب دراصل یہ ہے کہ العصالت کی نوعیت محض ایک دعا کی ہے۔ یعنی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ نیک عمل جو ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو دیا جائے۔ اس دعا کی چیزیت ہماری دوسری دعاوں سے مختلف نہیں ہے۔ اور ہماری سب دعائیں اللہ کی مرضی پر موقوف ہیں۔ وہ ختار ہے کہ جس فاعل کو چاہے قبول فرمائے اور جسے چاہے قبول نہ فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے لیے العصالت ثواب کریں جو اللہ کی نگاہ میں مومن ہی نہ ہو، یا سخت بھرم ہو اور اللہ اُسے کسی ثواب کا مستحق نہ سمجھے۔

العصالت کرنے والے نے اگر واقعی کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کا اجر یہ حال ضائع نہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اگر متوفی کو ثواب نہ پیپائے گا تو نیکی کرنے والے کے حساب میں اس کا اجر ضرور شامل کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی شخص کے نام منی آرڈر بھیجیں۔ اگر وہ منی آرڈر اس کو نہ دیا گی ہو تو لازماً آپ کی رقم آپ کو والپر ملے گی۔

یا مصلحت اور جلیل میں کسی قیدی کو کھانا بھیجیں۔ اگر حکومت یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ ایک خالم مجرم کو نفیں کھانے کھلانے چاہیں تو وہ آپ کا بھیجا ہوا کھانا پھینک نہیں دے سے گی، بلکہ آپ کو والپس کر دے گی۔

۲۔ ایصالِ ثواب ہر لمحہ کے لیے کیا جاسکتا ہے، خواہ متوفی سے کوئی فرستہ ہو یا نہ ہو اور خواہ متوفی اس کا کوئی حصہ آدمی کی تربیت میں ہو یا نہ ہو۔ جس طرح رحماءِ لمحہ کے لیے کی جاسکتی ہے اسی طرح ایصالِ ثواب بھی ہر لمحہ کے لیے کیا جاسکتا ہے۔

(ترجمان القرآن۔ فردی ۱۹۷۱ء)

اصحابِ قبور سے درخواست و دعا

سوال :- کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ ”اے دلِ اللہ! آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں“ کیا درست ہے؟
جواب :-

کسی بزرگ سے اپنے حق میں دعا لئے خیر کی درخواست کرنا بجا رہ خود کوئی قابلِ اعتراض چیز نہیں ہے۔ آدمی خود بھی اللہ سے دعا انگ سکتا ہے، اور دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ لیکن دفات یا فترہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ درخواست پیش کرنا معاملہ کی نوعیت کو بالکل ہی بدلتا ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی وجہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دل میں، یا پچکے چپکے الیسا کہیں راس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ ان بزرگوں کی سماعت کی شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ کی ہے کہ :

أَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا رِبَّهُ دِإِنَّهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
الْقُدُورُ -

تم اپنی بات آہتہ سے کھو یا زندگی سے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔
دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زور زد در سے اُن ولی اللہ کو پکار کر کہیں۔
اس صورت میں اعتقاد کی خرافی تو لازم نہ آئے گی مگر یہ اندر ہیرے میں تیر چلانا ہو گا جو
سکتا ہے کہ آپ پکار رہے ہوں اور وہ دشمن رہے ہوں۔ کیونکہ سایعِ موتی اس کا مسئلہ
مختلف فیہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع تو ممکن ہو۔ مگر اُن کی روح وہاں تشریف
ذرکرتی ہو، اور آپ خواہ تجوہ خالی مکان پر آدازی دے رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ اُن کی روح تشریف فرماتو ہو مگر وہ اپنے رب کی طرف مشغول ہوں، اور اپنی
غرض کے لیے پیغام بخیج کر اُن کو الٹی اذیت دیں۔ دنیا میں کسی نیک آدمی سے رُعا
کرنے کے لیے آپ جلتے ہیں تو مہدب طریقہ سے پہلے ملاقات ہوتی ہے پھر
آپ مرضی مذاکر تے ہیں۔ یہ تو نہیں کرتے کہ مکان کے باہر کھڑے ہو کر اسیں چینیا
شدید کر دیا۔ کچھ تپہ نہیں کہ اندر میں یا کہ نہیں ہیں۔ ہیں تو آرام میں ہیں یا کسی کام میں
مشغول ہیں، یا آپ کی بات سننے کے لیے خالی بیٹھے ہیں۔

اب غور کہے کہ وفات یا فتنہ زرگوں کے معاملہ میں جب ہمارے لیے اُن کے
احوال معلوم کرنے اور اُن سے ہالشاف ملاقات کرنے کا موقع نہیں ہے تو اُن کے
مکانوں پر جا کر انہیں پکار شروع کر دینا آخر کس معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے
دعا کر دا نے کا یہ طریقہ اگر قرآن دحدیث میں سمجھا یا گیا ہوتا، یا اس کا کوئی ثبوت موجود
ہوتا کہ صحابہ کے عہد میں یہ رائج تھا، تب تو بات صاف تھی۔ بڑے اطہیناں کے

ساتھ یہ کام کیا جاسکتا تھا لیکن جب وہاں اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا تو آضر ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائے جس کی ایک صورت تو صریحًا صفاتِ الہی کے تصور سے ممکن نہیں ہے، اور دوسری صورت علاویہ غیر معقول نظر آتی ہے۔

بزرگوں کی حرمت و جاہ سے توسل

سوال :-

یہ جو درعاءوں میں "بجاو فلاں" اور "بحرستہ فلاں" کا اضافہ ملتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت رسولؐ کیا بتاتی ہے؟ صحابہ کا کیا معمول رہا ہے؟ اور اس طرح (بجاہ — حرمت) درعاً منجھنے سے کوئی رینی قباحت تو لازم نہیں آتی؟

جواب :-

درعاً میں اللہ تعالیٰ کو کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینیادہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پاک نے ہم کو سکھایا ہے۔ قرآن تو آپ جانتے ہی ہی کہ اس تفہیل سے بالکل خالی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے۔ صحابہ کرامؐ میں سے بھی کسی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے درعاً میں یہ طریقہ خود اختیار کیا ہو یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہو۔ معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں یہ تفہیل کہاں سے آگیا کہ رب العالمین کے حضور دُعاً منجھنے وقت اسے کسی بندہ کی جاہ و حرمت کا حوالہ دیں یا اس سے یہ عرض کریں کہ اپنے فلاں بندے کے طفیل میری حابت

پوری کر دے یعنی نہیں کہتا کہ ایسا کرنامنوع ہے۔ میں صرف دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسا کرنام طریقہ کے مطابق نہیں ہے جو رب العالمین نے خود نہیں دعا منجھے کے لیے سکھایا ہے۔ اور اس طریقہ دعا سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جو بنی مصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براہ راست شاگردوں کو تبایا تھا۔ اس لیے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضور مصلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام آخری بتانے کے لیے توکے تھے کہ خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ و تعلق کی صحیح صورت کیا ہے، اور جب انہوں نے اس کی پی صورت ذخیر اختیار کی، نہ کسی کو سکھائی تو جو شخص بھی اسے اختیار کرے گا وہ معتبر حیز کو چھوڑ کر غیر معتبر حیز اختیار کرے گا۔

دوسرا بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اس طریقہ دعا میں بڑی کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے معنی سے صرف نظر کر لے اور اس میں کراہیت کا وہ پہلو محسوس نہ کرے جو مجھے نظر آتا ہے۔ میں جب اس طریقہ دعا کے مضمرات پر غور کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ الی تصویر آتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی سختی داتا ہتی ہے، جس کے اندازے سے ہر کہ دوسرے کی حاجتوں پوری ہوتی ہے، جس کافیض عام ہے، جس کا دوبار کھلاہے، جس سے ہر مانگ دلامانگ سکتا ہے، اور کسی پر اس کی عطا و گفتش بند نہیں ہے۔ ایسی ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اس سے سیدھی طرح یہ نہیں کہتا کہ اے کلیم در حیم! میری مدد کر۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے۔ مانگنے کے اس انداز میں یہ بدگمانی پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی صفت رحم و کرم کی وجہ سے کسی کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے دوستوں اور حمیتوں اور مقربوں کی خاطر

احسان کر دیا کرتا ہے۔ ان کا واسطہ نہ دیا جائے تو گویا آپ اس کے ہاں سے کچھ پانے کی امید نہیں رکھتے اور بجاہ فلاں کہ کہانی میں تو معاملہ بدگمانی سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اس کے معنی تو نہیں کہ گویا آپ اس پر دباؤ وال رہے ہیں کہ میں فلاں آدمی کا متسلسل آیا ہوں، میری دخواست کو کسی پر وسیلہ آدمی کی سی دخواست سمجھو کر نہ ٹال دیجئے گا۔ اگر یہ اس طرزِ دعا کے مضرات نہ ہوں تو مجھے سمجھا ریا جائے۔ بڑی خوشی ہوگی کہ میرے دل کی کشک اس معاملہ میں نکل جائے گی۔ لیکن اس کے واقعی مضرات یہی ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملک کا صحیح تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرزِ دعا اختیار کرنے کا خیال بھی کیسے کر سکتا ہے۔

اسی طرح کے مضرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے بھی اس طرزِ دعا کو مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ نقہ حنفی کی مشہور کتاب حدایہ میں یہ قول موجود ہے۔

وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ مَعْجَنْ فَلَدَنْ أَوْ
مَعْجَنْ أَنْبِيَا وَكَ وَرَسُلُكَ لَا فِيهِ لَا حَقٌ لِّلْمُخْلُوقِ
عَلَى الْخَالِقِ۔ (كتاب الکرامۃ، مسائل متفرقة)

ادیبی مکروہ ہے کہ آدمی اپنی دعائیں بھی فلاں یا بحقِ انبیاء و رسول کہئے کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔

(”فاران“ توحید نمبر)

ترجمان القرآن۔ محرم، صفر ۱۳۶۶ھ۔ - اکتوبر، نومبر ۱۹۵۷ء)

مسئلہ حیاتِ النبی

سوال :-

آج کل دینی حلقوں کی فضایں حیاتِ النبی کا مسئلہ ہر وقت گونجتا رہتا ہے اور علمائے کرام کے نزدیک موضوع سخن بنا ہوا ہے۔ شروع میں تو فریقین اپنی اپنی تائید میں علیٰ دلائل دے رہے ہیں تھے مگر اب تحریر بازی، طعن و تشنیع اور گپٹی اچھائتے تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ الاما شار اللہؑ بعض صاحبوں میں باذراز بلند کہا جادا ہے کہ انہیا راسی طرح زندہ ہیں جس طرح کہ دنیا میں زندہ تھے اور حیاتِ النبی کا منکر کافر ہے۔ بعض دوسرے حضرات حیاتِ جماعتی کے عقیدے کو مشرکاً نبکہ مبغِ شرک قرار دے رہے ہیں۔ جہاں تک فضائل کا تعلق ہوتا ہے وہاں ادنیٰ^۱ سے ادنیٰ بات جو قرآنِ کریم اور خبر متواتر کے خلاف نہ ہو، مانی جاسکتی ہے۔ لیکن جب بات عقیدہ کی حد تک پہنچ جائے تو وہاں قطعی الثبوت دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بده وکرم میرے دل کی تسلی و شفی کے لیے مسئلہ حیاتِ النبی پر روشنی ڈالیں۔

جواب :-

مسئلہ حیاتِ النبی کے بارے میں آج کل جس طریق پر علمائے کرام کے مابین بحث چل رہی ہے اس کی دلکشی ضرورت ہے اور نہ اس کا کچھ حاصل ہی ہے۔ عقیدے کی حد تک ہمارا اس بات پر ایمان کافی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی ہیں، اور

آپ کی ہدایت اب تک کے لیے کامل ہدایت ہے۔ عمل کے لیے یہ بالکل کافی ہے کہ ہم آنحضرت کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، چھے معلوم کرنے کی خاطر قرآن اور حدیث ہمارا مرتع و مبلغ ہے۔ اب آخر اس بحث کی حاجت ہی کیا ہے کہ بنی کریم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کس معنی میں زندہ ہیں۔ بزرخی درود حال حیات ہو یا جہانی حیات؛ بہر حال اس امر واقعہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آنحضرت ﷺ میں دصال ہو چکے ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے آپ نبھیں نفیں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور آپ کا اتباع کرنے کے لیے ہمیں آپ کی ذات اقدس کی طرف رجوع کرنے کے بجائے قرآن اور حدیث ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حیات بزرخی یا حیات جہانی کی بحث کا کوئی بھی فیصلہ ہو، اس سے اس امر واقعہ میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔

پھر یہ بحث اس لیے بھی غیر ضروری اور لا طائل ہے کہ ہم اس خاص معاملے میں کوئی متعین عقیدہ رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف ہی نہیں کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی مسلم اس مسئلے سے بالکل خالی الذهن ہو یا اس میں کوئی رائے قائم کیے بغیر مرجا ہے، تو اس کے ایمان میں کوئی نقص فاقع نہ ہو گا، نہ آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے حیات بنی کے بزرخی یا جہانی ہونے کے ہمارے میں کیا عقیدہ رکھا تھا۔ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی واضح اقتضی ہدایت اس باب میں نہیں دی گئی جو ہمیں ایک خاص عقیدہ رکھنے کا پابند کرنے ہو، نہ یہ شدہ صحابہ کرامؓ کے درمیان نزیر بحث تھا، نہ آنحضرت کے چانشیوں نے کسی کو اس معاملے میں کوئی خاص عقیدہ رکھنے کی کبھی تلقین کی۔

میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حیاتِ الجنی کے مسئلے میں حضرات علماء دینی غلطی کرد ہے ہیں جو خلقِ قرآن کے مسئلے میں خلیفہ مامون نے کی تھی۔ یعنی جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے اسلام کا ایک عقیدہ اور ایمانیات کا ایک رکن نہیں قرار دیا تھا اور نہ پڑھنے پڑھنے یا شہادت کرنے کی بخات کا مدار رکھا، اور نہ جس پر اعتقاد رکھنے کی خلائق کو دعوت دی تھی، اسے خواہ مخواہ عقیدہ کا اسلام اور رکن ایمان بنا�ا جا رہا ہے، اس کے مانندے یا شہادت کو مدار بخات قرار دیا جا رہا ہے، اس پر اعتقاد رکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور اعتقاد نہ رکھنے والوں کی تحریر و تفسیر کی جا رہی ہے۔ دین میں جن چیزوں کی یہ حیثیت تھی ان کو صاف صاف اور حقیقی مکور پر بیان کر دینے میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی کو تاریخی نہیں کی ہے اور علی رویس الا شہار ان کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ مسئلہ ہرگز ان مسائل میں سے نہیں ہے اور اسے زبردستی ان مسائل میں شامل کرنا یا ان کا سامنہ جو دنیا کیلیٹہ غلط کارروائی ہے۔ اگر کوئی شخص اس مسئلے میں قطعاً خالی الذہن ہو یا اس کے باسے میں کوئی عقیدہ درستے نہ رکھتا ہو۔ اس سے قیامت میں کوئی باز پس نہ ہو گی اور اس کے انعام اخراجی پر اس عدم رائے یا خلوئے ذہن کا کوئی اثر متربّ نہ ہو گا۔ البته خطرے میں وہ شخص ہے جو اس مسئلے میں ایک عقیدہ قائم کرتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں صحت اور عدم صحت دونوں کا اختلاف ہے۔

علم غیب، حاضر و ناظر اور بحود لغیر اللہ

سوال:-

تفہیم القرآن زیر مطابع ہے۔ شرک کے مسئلہ پر ذہن الْمُجَھِّی گیا ہے۔ بڑا کرم سُلْطانی فرمائیں۔ تفہیم القرآن کے تبعوں مطابع سے یہ امر ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی مخصوص صفات یعنی عالم النیب ہونا ارادہ میں دلصیر ہونا (جس کے تحت ہمارے مرد جو الفاظ حاضر و ناظر بھی آجائتے ہیں) بھی شامل ہیں۔ خدا کے سوا کسی کو بھی ان صفات سے متصف سمجھنا شرک ہے۔ اور حقوق میں سجدہ درکوئے دغیرہ بھی ذات باری سے نقص ہیں۔ شرک کو خداوند نے جرم عظیم اور ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے جرم کا دہ خود کسی کو حکم نہیں ہے سختاً۔ مگر فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کا حکم دیا۔ اسی طرح کوئی بُنی نہ تو شرک کرتا ہے اور نہ کر داتا ہے۔ مگر حضرت یوسفؓ کے سامنے ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے شرک ہے تو مندرجہ بالا ادعیات کی کیا توجیہ ہو گی؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ علم غیب اگر خداوند تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے تو یہ کسی بھی مخلوق میں نہ ہوئی چاہیے۔ لیکن قرآن و حدیث اس امر پر دلائل کرتے ہیں کہ انبیاء رددُسل کو علم غیب ہوتا ہے۔ پھر کسی مخلوق میں یا کسی فرد میں اس صفت کو ہم تسلیم کریں تو ہم تکب شرک کیوں ہوتے

ہیں ؟ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا علم دیا ہے تو اپنا سے مشکر کیوں کہا جائے ؟ جن لوگوں کے خلاف اسی بنا پر شرک کے آنکاب کا فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت علم غیب کو ذاتی یا نفسی نہیں کہتے بلکہ خدا کا دین قرار دیتے ہیں۔ ان کا اور دوسرے علماء کا اگر اختلاف ہے تو صرف کم یا زیادہ پس ہے۔ جب مشکر کم دشیں کا ہی ہے تو پھر فتویٰ شرک کیوں ؟

حاضر دناظر کی صفت بھی خداوند تعالیٰ سے منقص قرار دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مک الموت کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سیئٹھوں نہیں بلکہ نہاروں انسانوں، حیوانوں، پرندوں، پھر ندوں اور چیزوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ حاضر دناظر ہے اور حاضر دناظر ہونا خدا کی خصوص صفت ہے۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کی انجام دہی کے لیے اپنی خاص صفت فرشتہ میں درست کر کھی ہے تو جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صفت خارج ناظر ہونا اور خدا کی طرف سے عطا کیا جانا مانتے ہیں آخراً نہیں مشکر کیوں کہا جاتا ہے ؟

جواب ..

آپ نے شرک کے مسئلے میں اپنی جزا بھیں بیان فرمائی ہیں وہ تفہیم القرآن کے مدلل بحالہ سے ہاسانی رفع ہو سکتی ہیں۔ میرے لیے ایک خط

میں ان کو تفعیل اور فر کرنا مشکل ہے۔ تاہم چونکہ مشرک "کام عاملہ ٹپا ہی نازک اور خطرناک ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس الہمن میں زیادہ دیر ٹک بولتا رہیں اس لیے اختصار کے ساتھ چند الفاظ میں آپ کو ملھن کرنے کی کوشش کروں گا۔

سب سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ سجدہ بجلے خود شرک نہیں ہے بلکہ شرک کی علامت ہے۔ اصل میں شرک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کی الذات یا فی الصفات یا فی الحقوق ٹھیڑانا ہے۔ سجدہ اگر اس طرح کے کسی عقیدے کے ساتھ ہو تو شرک ہے، درستہ اس فعل سے چونکہ مشرکین کے ساتھ علامہ مشاہد ہوتے ہیں، اس لیے اسے بجائے خود شرک ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ اس مشابہت کی بنا پر منور ٹھیڑا یا گیا ہے۔ تحقیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خود حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر دے۔ اس لیے فرشتوں نے جو کچھ کیا دہ اللہ عز وجل کے حکم صریح کی تعمیل میں تھا۔ لہوڑ خود دہ آدم کو قابل پہتش یا قابل تعظیم کچھ کرنہیں جک گئے تھے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں شرک کا کوئی شایعہ نہیں ہو سکتا۔

حضرت یوسفؐ کے سامنے والدین اور بھائیوں نے جو سجدہ کیا دہ اُس رویا نے صارقہ کی بنا پر تھا جو قرآن کی مردوں سے اللہ تعالیٰ نے خود دکھایا تھا، جسے یہ حضرت یعقوب عليه السلام نے الی اشارہ فرار دیا تھا (سورہ یوسف آیات ۳۷ تا ۴۰) اور جس کو حضرت یوسفؐ نے بھی آفر کار اسی خواب کا مصدقہ ٹھیڑا یا (سورہ یوسف آیت ۱۰۰)۔ اس لیے یہاں بھی جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کام اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جائے وہ شرک نہیں ہو سکتا۔

اب اُس شخص کے معلمے کو بھی جو اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان سے بغیر کسی بندے کو معمظم و مقدس سمجھ کر الجبور خود اس کے آگے سجدہ بجالائے۔ کیا کسی دلیل سے اس فعل کو بھی غیر مشرکان کہا جاسکتا ہے؟ کیا یہ استدلال صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے پہلے دونوں معاٹوں میں سجود لغیر اللہ کو جائز کیا ہے تو یہ فعل مطلقاً جائز ہے؟ یا یہ کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر خود جسے چاہیں تعظیماً سجدہ کر سکتے ہیں؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص بندے کے متعلق ہم بتاتا ہے کہ اُس نے فلاں فلاں مصلح کی بنابر حکم خداوندی سے کچھ مساکین کی کشتی عیسیٰ دار کر دی، اور ایک شے کو قتل کر دیا۔ کیا اس سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ ہم بھی مصلحت دیکھ کر جس کے مال کو چاہیں نقصان پہنچا دینے اور جسے چاہیں قتل کر دینے کے مجاز ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے فصوص شرعیہ کے ذریعہ سے غیر اللہ کے لیے سجدے کو حرام کر دیا ہے، اور دوسروں کی جان و مال میں تصرف کے لیے حدود مقرر کر دیئے ہیں، تو کسی شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خصوصی افعال کو غیر قرار دے کر اور ان پر قیاس کر کے ان منواعات کو اپنے لیے مباح کر لے؟

علم غیب کے مثلے میں یہ بات سب مانتے ہیں کہ کلی دذاتی علم غیب اللہ کے لیے غصوص ہے، اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ اپنے علم غیب کا جو حصہ اور جتنا حصہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ یہ جزوی اور عطا ای علم غیب اپنی نوعیت میں اُس کلی دذاتی علم غیب سے مختلف چیز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی غصوص صفت ہے۔ اور کسی بندے کے حق میں اس دوسری نوعیت کے علم غیب کا تقدید رکھنا کسی کے نزدیک بھی شرک نہیں ہے۔ دراصل فرمائی

جس مقام سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ حقیقت میں غلوکر کے دو الیسی
باتیں ایجاد کر لیتے ہیں جو اصل اسلامی حقیدے سے متصادم ہوتی ہیں۔

اول یہ کہ وہ اس عطائی علم غیب کو جزو نہیں بلکہ کل بنا دیتے ہیں اور کسی
بندے کے حق میں یہ دھوکی کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اُسی طرح جمیع ماکان
و ما یکون کا عالم بنا دیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ بنابرہیاں جزو دکل کا
فرق دوڑ ہو جانے کے باوجود ذات اور عطائی کا فرق نظر آتا ہے۔ جس کی بناء پر یہ کہا
جا سکتا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا بھی آپ خود کریں
 تو آپ کو فسوس ہو جائے دیکھا کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے میں کتنا عظیم خطرہ مضر ہے
 بالفرض اگر یہ جائز ہو کہ اللہ اپنی عطا سے کسی بندے کو اپنے ہی جیسا عالم الغیب و
 الشہادۃ بنا دے، تو آخر یہ کیوں نہ جائز ہو کہ وہ اُسے اپنی ہی طرح قادر بسط لق اور
 حی و قیوم اور خالق درست بھی بنا دے؟ اس کے بعد خدا کی عطا سے کسی بندے
 کے خدا بن جانے میں آخر کیا کادٹ باقی رہ جاتا ہے؟ پھر کیا دو صافی صفات
 و اختیارات رکھنے والے خداوں کے درمیان صرف ذات اور عطائی کا فرق شرک
 سے بچانے کے لیے کافی ہو گا؟

دوسری روایتی غالی حضرات یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے عیطے کو خود بانٹنے کے
 مختار بن جاتے ہیں۔ یہ تباہا کہ عطا فرمائے والے نے کسی کو کیا عطا کیا ہے اور کیا
 نہیں کیا ہے درحقیقت خود عطا فرمائے والے ہی کا کام ہے۔ دوسرے کسی
 شخص کو یہ حق نہیں پہچانا کہ معطی کے اپنے بیان کے بغیر وہ بطور خود یہ فحیله کر دے
 کر دینے والے نے کیا کچھ کسی کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب

پاک میں کہیں یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو جمیع مالاں و مالکوں کا عالم بنا دیا ہے، یا اللہ کے رسول نے کسی صحیح حدیث میں اس کی صراحت کی ہو، تو اس کا حوالہ دے ریا جائے، ساری بحث ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نہ کوئی آیت اس کی تصریح کرتی ہے نہ کوئی حدیث صحیح، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے اس علیینے کی خبر لوگوں تک آخر کس ذریعہ سے پہنچی ہے؟

اس مسئلے میں یہ بات خوب سمجھ یجئے کہ عقیدے اور خصوصاً عقیدہ توحید کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر کفر و ایمان اور فلاح و خسران کا مدار ہے۔ اس معاملے میں یہ طرزِ عمل صحیح نہیں ہے کہ مختلف احوالات رکھنے والی آیات اور احادیث میں سے ایک مطلب پھوٹ کر کوئی عقیدہ بنالیا جائے اور اسے داخل ایمانیات کر دیا جائے۔ عقیدہ توصاف اور صریح فکرات سے مانند ہونا چاہیے جن میں اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات ماننے کی وجہت دی ہو، اور یہ ثابت ہو کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی تبلیغ فرماتے تھے، اور صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین اور ائمۃ مجتہدین اُس پر اعتقاد رکھتے تھے۔ کیا کوئی شخص بتاسکتا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب والشهادۃ ہونے یا جمیع مالاں و مالکوں کے عالم ہونے کا عقیدہ یہ نوعیت رکھتا ہے؟ اگر یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا تو آخر آپ اپنے آپ کو اس خطرے میں کیوں ڈالیں؟

حاضر فنا ظر کے مدللے میں آپ نے ملک الموت کی جو مثال پیش کی ہے اس میں کوئی غلطیاں ہیں۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے، اور نہ کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ ساری کائنات کا ملک الموت ایک ہی ہے۔ یہ بات بھی قرآن سے

نہیں معلوم ہوتی کہ صرف ایک فرشتہ قبض اور راح نہ کام کرتا ہے بلکہ متعدد مقامات پر روح قبض کرنے والے فرشتوں کا ذکر بصیرتہ جمع ہے، مثلاً:

**إِنَّ الَّذِينَ تَوْفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَاهِرًا الْفَيْهُمْ
قَالُوا فَيْهُمْ كُنْتُمْ** (النساء: ۹۶)

”جن لوگوں کو لاکھر نے اس حال میں وفات دی کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے ان سے لاکھر نے پوچھا کہ تمہیں حال میں تھے؟“
**كَيْفَيْتَ إِذَا تَوْفَّيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ لَيَضْرِبُونَ وَجْهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ** (محمد: ۲۶)

”پھر کیا ہے گی اُس وقت جب لاکھر ان کو وفات دیں گے ان کے چہروں اور پیشوں کو پیٹتے ہوئے؟“

**الَّذِينَ شَوَّفُتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبُونَ يَقُولُونَ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** (آل النحل: ۳۲)

”جن لوگوں کی روحیں لاکھر اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ پاک نہ لوگ تھے ان سے وہ کہیں گے کہ سلامتی ہوتی ہے؟“

**حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتِهِمْ رُسُلُنَا يَسِّرُونَ فَتَوْنُهُمْ قَالُوا أَيْنَ
مَا كُنْتُمْ تَذَكَّرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** (الاعراف: ۳۶)

”یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پہارتے تھے؟“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑے لکھ الموت کے تحت بہت سے دوسرے مددگار فرشتے بھی ہیں جو روحیں قبض کر لے پر مامور ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح الجیس ایک بڑا شیطان ہے اور اس کی ماتحتی میں بے شمار شیاطین ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ نہ الجیس جاتا ہے نہ لکھ الموت۔

پھر خود اس زمین کی خلوقات کے بارے میں بھی کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تمام شخصی و تری اور ہوا کے جانداروں کا لکھ الموت وہی ایک ہے جو انسانوں کی جان لینے کے لیے مقرر ہے۔ قرآن میں تو صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ **يَتَسْوُفَ إِلَهٌ مُّلْكُ الْمُوْتَ** (المُؤْتَ رتمہاری روحیں لکھ الموت قبض کرتا ہے)۔ اس سے چوڑ بات نکلتی ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اس زمین پر انسانوں کی روحیں قبض کرنے پر ایک فرشتہ مامور ہے۔ اگر بالفرض یہی ایک فرشتہ روشنے زمین پر تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتا ہے، تب بھی یہ بہت ہی محدود رزمانے کی طاقت ہے جو اللہ نے اپنے اس فرشتے کو عطا فرمائی ہے۔ اس کو آخر اللہ تعالیٰ کی اس لا محدود صفت سے کیا نسبت ہے کہ وہ ساری کائنات میں حاضر و ناظر ہے؟ پھر مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اور آپ کیا اب قیاسات پر اپنے عقائد کی عمارت کھڑی کریں گے؟ لکھ الموت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے اسے انسان روحیں قبض کرنے پر مامور کیا ہے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ جو تصور قائم کیا جاسکتا ہے وہ بس اسی قدر ہے کہ یہ فرشتہ بیک وقت روشنے زمین کے ہر حصے میں لاکھوں انسانوں کی روحیں قبض کرتیا ہے۔ مگر کیا اس پر یہ قیاس بھی کیا جاسکتا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور سب کچھ دیکھ سبھے ہیں؟ ان دنوں باقیوں میں آفر کیا بابت

ہے کہ ایک کو دوسرا پر قیاس کر لیا جائے؟ اور پھر قیاس بھی ایسا کرو ملکیدہ قرار پائے اور ایمانیات میں داخل ہوا اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے اور نہ مانتے والوں کے ایمان میں نقص شاہت کی وجہ نے گئے؟ یہ عقیدہ اگر واقعی اسلامی عقائد میں شامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کی تصریح فرماتا کہ میرے رسولؐ کو حاضر ناظر تسلیم کرد۔ حضورؐ خود یہ دعویٰ فرماتے اور اسے مانتے کی دعوت دیتے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں اور قیامت تک حاضر ناظر ہوں گا۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین میں یہ عقیدہ عام طور پر شائع و مذکور ہوتا اور عقائد اسلام کی کتابوں میں اسے ثابت کیا جاتا۔

آپ نے بعض حضرات کو مشرک کہنے یا نہ کہنے کا جو ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں میری رائے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں ان مسائل میں ان کے خلاف کو تاویل کی غلطی سمجھتا ہوں، اور اسے غلط کہنے میں تامل نہیں کرتا۔ مگر مجھے اس بات سے تنقیق نہیں ہے کہ انہیں مشرک کہا جائے اور مشرکین حرب سے تشبیہ دی جائے۔ میں ان کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتا کہ وہ شرک کو شرک جانتے ہوئے اس کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ توحید ہی کو اصل دین مانتے ہیں اور اسی پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس لیے انہیں مشرک کہنا زیادتی ہے۔ العۃ انہوں نے بعض آیات اور احادیث کی تاویل کرنے میں سخت غلطی کی ہے اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ اگر ہندوؤں والی باتیں نہ کی جائیں بلکہ مدقوقی طریقے سے دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے تو وہ جان یوجہ کر کی گرائی پر اصرار نہ کریں۔

خواب میں ریاستِ نبوی

سوال :-

براہ کرم مندرجہ ذیل سوال کے ہارے میں اپنی تحقیق تحریر فرمائکر تشقی فرمائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو قدر
حقیقت اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری انشاں میں نہیں آسکتا
اوکھا قال -

اس حدیث کی صحیح تشریح کیا ہے؟ کیا بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شکل
و شبہست میں بھی خواب میں دیکھا جائے تو یہ حضورؐ ہی کو خواب میں دیکھنا
بھا جائے گا؟ کیا حضورؐ کو یہ پین لباس میں دیکھنا بھی آپؐ کو دیکھنا
بھا جائے گا؟ اور کیا اس خواب کے زندگ پر کچھ اثرات بھی پڑتے
ہیں؟

جواب :-

اس حدیث کی صحیح تشریح یہ ہے کہ جس نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورؐ
کی اصل شکل دھورت میں دیکھا اُس نے وہ حقیقت آپؐ ہی کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان
کو یہ قدرت نہیں دی گئی ہے کہ وہ آپؐ کی صورت میں اُکر کسی کو بہکا سکے۔ اس
کی یہی تشریح حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ نے کی ہے۔ امام بخاری کتاب التغیر
میں ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اذا رأاه في صورته رجب کو دیکھنے دأ

نے آپ کو آپ ہی کی صورت میں دیکھا ہو، علامہ ابن حجر سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص ابن سیرین سے کہتا کہ میں نے خواب میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو وہ اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے کس شکل میں دیکھا اگر وہ آپ کی کوئی ایسی شکل بیان کرتا جو آپ کے چلیا ہے نہ ملتی تھی تو ابن سیرین کہا دیتے تھے کہ تو نے حضور کو نہیں دیکھا ہے۔ یہی طرزِ عمل حضرت ابن عباس کا بھی تھا جیسا کہ حاکم نے بسند نقل کیا ہے۔ بلکہ پسحیر یہ ہے کہ خود حدیث کے الفاظ بھی اسی معنی کی توثیق کرتے ہیں۔ جن مختلف الفاظ میں یہ حدیث صحیح سندهوں سے منقول ہوتی ہے ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آسکتا یہ نہ یہ کہ شیطان کسی شکل میں اگر آدمی کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ آنحضرت کو دیکھ رہا ہے۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی جان لینی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور آپ سے کوئی امر یا کوئی ہنگی کا حکم ٹھنڈے یادیں کے معاملے میں کسی قسم کا ایجاد آپ سے پائے تو اس کے لیے اس خواب کی پیروری اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ اس تعلیم یا ایجاد کے مطابق کتاب و سنت ہونے کا اطمینان شکر لے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے دین کا معاملہ خوابوں اور کشوفوں اور الہاموں پر نہیں چھوڑا ہے۔ حق اور باطل اور صحیح اور غلط کو ایک روشن کتاب اور ایک مستند سنت میں پیش کر دیا گیا ہے جسے بیداری اور پورے شعور کی حالت میں دیکھ کر زادہ راست معلوم کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی خواب یا کشف یا الہام اس کتاب اور اس سنت کے مطابق ہے تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے

حضرت کی زیارت نصیب کی، یا کشف والہام کی فضت سے نوازا۔ لیکن اگر وہ اس کے خلاف ہے تو اسے رد کر دیجئے اور اللہ سے حاصل ہوئے کہ وہ ایسی آزمائشوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔

ان دو ہاتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بکثرت لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ متعدد آدمی میرے علم میں ایسے ہیں جو صرف اس بنا پر ایک گمراہ مذہب کے پیرو ہوئے کہ انہوں نے خواب ہیں بنی صل اللہ علیہ وسلم کو اس مذہب کے باعث توثیق کرتے یا اس کی طرف التفات فرماتے دیکھا تھا۔ وہ اس گمراہی میں نہ پڑتے اگر اس حقیقت سے واقف ہوتے کہ خواب میں کسی شکل کے انسان کو بنی صل اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیکھ لینا اور حقیقت حضور کو دیکھنا نہیں ہے اور یہ کہ خواب میں واقعی حضور ہی کی زیارت نصیب ہوتی ہے جی کوئی حکم شرعی اور امر دینی ایسے خواب سے اخذ نہیں کیا جاسکتا۔

بعض لوگ یہ مولا کرتے ہیں کہ اگر شیطان کے فریب سے تحفظ صرف اس شرط کے ساتھ مشرد طب ہے کہ آدمی حضور کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھے تو اس کا فائدہ حلت اُنہی لوگوں کو حاصل ہو سکتا تھا جنہوں نے آپ کو بیداری میں دیکھا تھا۔ بعد کے لوگ آخر کیسے جان سکتے ہیں کہ جو شکل وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ حضور ہی کی ہے یا کسی اور کی؟ ان کو اس حدیث سے کیا تسلی ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعد کے لوگ اس بات کا اطمینان تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو شکل خواب میں دیکھی وہ حضور ہی کی شکل تھی، مگر یہ تو معلوم کر سکتے ہیں کہ خواب کے معنی اور مضمون کی مطابقت قرآن و سنت کی تعلیم سے ہے یا نہیں۔ مطابقت پائی جاتی ہو تو پھر زیادہ

امکان اسی بات کا ہے کہ انہوں نے خواب میں حضور ہی کی زیارت کی ہے، لیکن شیطان کسی کو راہ راست دکھانے کے لیے قریب پڑھنے سمجھا کرتا۔
 رترجمان القرآن ذی القعدہ ۱۳۴۵ھ جولائی ۱۹۶۰ء

سحر کی حقیقت اور معوذین کی شانِ نزول

سوال:-

معوذین کی شانِ نزول کے متعلق بعض مفسرین نے حضور علیہ السلام پر بیوی امدادی کیوں کے جادو کا اثر ہونا اور ان سورتوں کے پہنچنے اس کا زوال ہو جانا بحوالہ احادیث تحریر فرمایا ہے۔ یہ کہاں تک حدودت ہے؟ نیز جادو کی حقیقت کیا ہے؟ بعض اشخاص حضور علیہ السلام پر جادو کے اثر کو منصبِ نبوت کے خلاف بھجتے ہیں۔

جواب:-

شانِ نزول کے بارے میں یہ بات پہلے ہی سمجھ دیئے گئے ہے کہ مفسرین جب کسی واقعہ کے متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب واقعہ پیش آیا اسی وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے اس آیت کا تعلق ہے معوذین کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ وہ ممکنے میں نازل ہوئی ہیں اور احادیث میں جادو کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے۔ اس لیے یہ کہنا براہمہ غلط

ہے کہ جب چاروں کا وہ راقعہ پیش آیا تو حضورؐ کو ان سورتوں کے پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی۔

جادو کی حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھیں۔ جادوگر دل نے لاٹھیوں اور رسیوں کے جو سانپ بنانے تھے وہ حقیقت میں سانپ نہیں بن جاتے، مگر اُس میں نے جو دہاں موجود تھا یہی محسوس کیا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ حتیٰ کہ خود حضرت موسیٰ کی آنکھیں پغیر ہونے کے باوجود اس قدر سخور ہو گئیں کہ انہوں نے بھی نہیں سانپ ہی دیکھا۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ

فَلَمَّا أَقْرَأَهُ اللَّهُ مُوسَى الْكِتَابَ سَخَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرَ حُبُومُ

(داعات ۱۳۰)

جب جادوگر دل نے اپنے انہر پر بیکے تو لوگوں کی آنکھوں کو سخور کر دیا اور انہیں مر عوب کر دیا۔

**فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعِصَمَهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
أَنَّهَا تَسْعَهُ ۚ فَأَذْجَسَ فِي لَفْسِهِ بِخِيفَةً
مَوْصِيٌّ ۖ** (آلہ ۳۰)

پس یکاکہ ان کے جادو کی وجہ سے ان کی لاٹھیاں اور رسیاں موسیٰ کو دشمنی ہوئی محسوس ہوئیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جادو قلب ماہیت نہیں کرتا بلکہ ایک خاص قسم کا نفیاتی اثر ڈال کر آدمی کے حواس کو متاثر کر دیتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ

جادو کی یہ تاثیر عام انسانوں پر ہی نہیں، انبیاء و پیغمبri ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس ذرائعے کو لی جادو گر کسی بھی کوشش سے ممکن نہیں دی سکتا، نہ اُس کے میش کو فیل کر سکتا ہے، نہ اُس سے اس حد تک متاثر کر سکتا ہے کہ وہ جادو کے ذریعہ اثر آگز منصب بیوت کے خلاف کوئی حاام کر جائے، لیکن بجا ہے خود یہ بات کہ ایک بھی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، خود قرآن سے ثابت ہے۔

احادیث میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی جو روایات آئیں ان میں سے کوئی چیز بھی عقل، تجربے اور مشاہدے کے خلاف نہیں ہے، احمد رضی قرآن کی تباعی ہو گئی حقیقت کے خلاف ہے جس کی میں نے اور تشریح کی ہے۔ بنی اسرائیل خمی یا شہید ہو سکتا ہے تو اُس کا جادو سے متاثر ہو جانا کو فسی تعقیب کی بات ہے؟ روایات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ چند نہ ٹک حضور کو کچھ نیاں سالاحق ہو گی تھا اور وہ بھی تمام معاملات میں نہیں بلکہ بعض معاملات میں بزرگی طور پر۔

(ترجمان القرآن، رمضان، شوال ۱۴۳۷ھ - جون، جولائی ۱۹۵۲ء)

گھر، گھوڑے اور عورت میں نجومیت

سوال :-

میں سہاٹ کے لیے ایک مکان خریدنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا مکان فروخت ہو رہا ہے، جس کا اکٹ بالکل لاوارث فوت ہوا ہے اور قدم کے رشتہ

وادروں کو وہ مکان میراث میں ملا ہے۔ میں نے اس مکان کے خریدنے کا ارادہ کیا تو میرے لئے میرے لئے بعض افراد مزاحم ہوئے اور بے کنے بچے کو لھر منہوس ہے، اس میں رہنے والوں کی نسل نہیں ٹھہری حتیٰ کہ اصل مالک پر خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ لھر کے لوگوں نے ان احادیث کا بھی حوالہ دیا۔ جن میں بعض گھروں، گھوڑوں اور عورتوں کے منہوس ہونے کا ذکر ہے، میں نے کتب احادیث میں اس سے متعلق روایتیں دیکھیں اور متعارف شروح و حواشی میں اس پر جو تکھائیا ہے وہ بھی پڑھا، لیکن بزم و تفصیل کے ساتھ کوئی تفصیل توجیہ بھجہ میں نہ آسکی۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟

جواب:-

جن روایات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کتب حدیث میں وارد تو ہوئی ہیں۔ مگر حضرت عائشہؓ کی روایت سے ان کی حقیقت کچھ اور معلوم ہوتی ہے امام احمدؓ نے اپنی مُسند میں اس کو یوں نقل کیا ہے،

عَنْ أَبِي حَيْنَةِ الْأَعْرَجِ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ وَقَالَا إِنَّ أَبَاهِرِيرَةَ يَحِدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الطَّيِّرَةَ فِي الرَّأْتَةِ وَالدَّامَةِ وَالدَّارَ - فَقَالَتْ وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبْنَى الْقَاسِمِ مَا هَذَا كَانَ يَقُولُ وَلَكُنْ كَانَ يَقُولُ كَانَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُ الطَّيِّرَةَ فِي الرَّأْتَةِ وَالدَّامَةِ وَالدَّارَ، ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةَ مَا أَصَابَ مِنْ مَهْمِيَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفَسَكِ الْأَدِيِّ كِتَابٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا -

ابو حسان اخراج سے روایت ہے کہ دادا حضرت عائشہؓ کی خدمت میں
حضرت ہوئے اور غرض کیا کہ الدہریہ ہمیان کرتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کرتے تھے کہ "بد شکونی تو صرف عورت اور گھوڑے گھر میں ہے" ۔
اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے قرآن ابوالقاسم
رلینی آنحضرت مسلم، پہنچاں کیا ہے، آپ یوں نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ
یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی جاہیت، عورت، گھوڑے اور گھر میں نجاست و بدنگونی
کے قابل تھے۔ پھر حضرت عائشہؓ نے یہ آیت پڑھی : کوئی مصیبت زمین میں اور
تمارے نفوس میں نہیں آتی مگر اس کے رد نہا ہونے پہلے وہ ایک نوشتے میں
لکھی ہوتی ہے ۔

ام المؤمنین کی اس تشریع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے جو
روایت بیان کی ہے وہ غالباً صحیح الفاظ میں نقل نہیں ہوئی ہے۔ تاہم اگر اس کو
درست مان جی لیا جائے تو اس کی ایک معقول توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔

نجاست کا ایک مفہوم تو ہم پرستا نہ ہے جسے اسلام سے کوئی علاقہ نہیں
ہے لیکن نجاست کا ایک دوسرا علمی مفہوم بھی ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کا نام موافق
اورنما زگار ہونا ہے۔ یہ مفہوم معقول بھی ہے اور شرایط میں معتبر بھی۔ چنانچہ
حدیث میں مکان کے منحوس ہونے کا جہاں ذکر ہے وہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ
مکان میں کوئی الیسی فرمی چیز موجود ہے جو رہنے والوں کی قسمت بلکہ اُریتی ہے
بلکہ اس کا مُدعایہ ہے کہ تجربے اور مشاہدے نے اس مکان کے لیے نام موافق ثابت
کر دیا ہے۔ بسا اوقات کسی مرض کے متعدد مراحل ایک مکان میں یکے بعد دیگرے

رہتے چل آتے ہیں پہاں تک کہ مرض کے زہریلی اثرات وہاں مستقل طور پر جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ اب اگر تجربے سے یہ معلوم ہو جائے کہ جو وہاں رہا وہ اس مرض خاص میں متلا ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مکان اب سکونت کے لیے نامنوف ہو گیا ہے خصوصیت کے ساتھ طاعون اور دق کے معلمے میں یہ بات بارہا تجربے سے ثابت ہو چکی ہے۔ احادیث میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ جہاں طاعون پیلا ہوا ہو وہاں سے بھاگو بھی نہیں اور قصداً وہاں جاؤ بھی نہیں۔ ایسا ہی معاملہ عورت اور گھوڑے کا گلے اگر متعدد آدمیوں کو ایک گھوڑے کی سواری نامنوف آئی ہو، یا متعدد آدمی ایک عورت سے بیکے بعد دیگر نے نکاح کر کے خاص مرض کے شکار ہوئے ہوں تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس گھوڑے یا اس عورت میں کوئی نامعلوم خرابی ہے۔

اب یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ جس مکان کو آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کی نخست وہی نوعیت کی ہے یا تجربی نوعیت کی۔

ترجمان القرآن۔ ربیع الثانی ۱۳۶۷ھ۔ جبوری ۱۹۵۳ء

شفاعت کا صحیح تصور

سوال :

کسی مولوی صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں آپ پر معزی اور خارجی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے۔ بناءً فتویٰ یہ ہے کہ آپ بنی کرمیم حمل اللہ علیہ و سلم کی طرف سے قیامت کے رفقاء کے بارے میں شفاعت کے

منکر ہیں۔ اس کا حوالہ ترجمان القرآن جلد ۷، عدد ۱، ص ۳ سے لیتے ہوئے آیت "جنگ کرو اہل کتاب میں ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں لاتے" کے تشریحی نوٹ کا دیا ہے۔ یہ نوٹ یوں ہے:

"دہن کوئی سعی سفارش، کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے متقب ہونا کامن
آنے گا یہ اسی طرح تفہیمات سے بھی کوئی حوالہ اسی قسم کا اخذ کیا ہے۔

براؤ کرم آپ بیان فرمائیں کہ اہل سنت کا عقیدہ شفاعت کے بارے میں کیا ہے۔ بنی مسلم اپنی است کی شفاعت کی حیثیت سے کریم گے نیز آیا وہ ساری است کی طوف سے شفیع ہوں گے؟

جواب ۱۔

خدا ان لوگوں کو نیک ہدایت دے جو دوسروں کی طرف خلط با تین فسوب کر کے دنیا میں پھیلاتے ہیں اور ان کے اقوال کو ایسے معنی پہنچاتے ہیں جو قابل کے مشارک کے خلاف ہوں۔ اگر الزام لگانے والے بزرگ کے دل میں خدا کا کچھ خوف پوتا تو وہ اشہار کی اشاعت سے پہلے مجھ سے بحکم کسی پوچھ سکتے تھے کہ تمیری ان عبارت کا فحشا کیا ہے، اور شفاعت کے بارے میں تمیرا عقیدہ کیا ہے۔ میری جن بدارتوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اُن میں سے ایک یہود و نصاریٰ کے خلط عقیدہ شفاعت کی تردید میں ہے۔ اور اس کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ اس خلط عقیدے کی وجہ سے کس طرح اہل کتاب کا ایمان ہالیوم الآخر باطل ہو گیا ہے جس کی بناء پر قرآن میں ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔

دوسری بدارت میں ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جو بنی صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنی دعویٰ رسالت کے آغاز میں مشرکین کہہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمائی تھیں
و نبی مسیح سے کسی مقام پر بھی اسلام کے عقیدہ شفاعت کو بیان کرنے کا موقع
ذکر کرتا۔ آخر کافروں اور مشرکوں کے سلسلے میں اُس شفاعت کا ذکر کیوں کیا جاتا جس
کے متعلق صرف اہل ایمان ہیں؟ کافروں اور مشرکوں کے معاشرے میں جو کچھ میں نے لکھا
ہے وہ وہی کچھ ہے جو قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ :

إِنَّمَا يُؤْمِنُ لَهُ الْجِنِّيُّونُ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَفَاعَةٌ وَلَا يُعَلِّمُ
شَفَاعَةً وَلَا شَفَاعَةٌ شَفَاعَةٌ وَلَا حُكْمٌ يُنْهَا وَلَنْ

رہا اسلامی عقیدہ شفاعت تو وہ قرآن و حدیث کی رو سے یہ ہے کہ قیامت
کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں شفاعت صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت
دے، اور صرف اُسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے۔
علام حافظہ سو،

يَوْمَ مِيزَدٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أُذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَرَحْمَنٌ لَهُ قُولًا

مَنْ ذَالِكَمْ لَيْسَ بِعِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

اس قادر سے کے تحت بنی مسلم آنحضرت میں یقیناً شفاعت فرمائی گئی اگر
شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی اور ان اہل ایمان کے حق میں ہوگی جو اپنی حد
دین کے نیک عمل کرنے کی کوشش کے باوجود گناہوں میں الودہ ہو گئے ہوں۔
جان بو جھوک کر خیانتیں اور بد کاریاں کرنے والے اور کبھی خدا سے نذر نے دلے
لوگ حضورؐ کی شفاعت کے متعلق ہمیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضورؐ کا ایک طویل۔

خطبہ مردمی ہے جس میں آپ جرم خیانت کی شدت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ خائن لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی گردن پر ان کا خیانت سے حاصل کیا ہوا مال لدا ہو گا اور وہ مجھے پکاریں گے کہ یا رسول اللہ اغشی ! (یا رسول اللہ امیری مدد فرمائیے) مگر میں جواب دوں گا کہ لا امداد دلکشیاً قد اهلقتك (میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا)۔ علاوه ہو :- مشکوٰۃ ہاب قسمۃ الفنا فمَنْ، التّلُولُ فیهَا

ترجمان القرآن، محرم ۱۳۶۷ھ - نومبر ۱۹۵۸ء)

عبدات اور فقہی مسائل

اذان اور نماز کی دعاؤں کے متعلق چند شیوهات

سوال :-

ایک دن یہیں مجھے حکی اذان سن رہا تھا کہ ذہن میں مجیب و غریب صولات
ابھرنے لگے اور شکوہ دشیہات کا ایک طوفانیں دل میں بس پا ہو گیا۔
اذان سے ذہن نماز کی طرف منتقل ہوا اور جب سوچنا شروع کیا تو نماز کی
مجیب صورت سامنے آئی۔ کہو میں نہیں آتا کہ نماز کس طرح پڑھوں اور
کیا پڑھوں ؟

ایک مسلمان کو ان کی گود ہی میں جو اوقیانیں حصہ بتاہے وہ یہ ہے۔
”اللہ ہی جبارت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شرکیہ نہیں“۔۔۔ پھر
(۱) اذان بلا واسیے خالصۃ اللہ کی جبارت کے لیے جس میں اس کا کوئی
شرکیہ نہیں، تو اشهد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی
اشهد ان محمد رسول اللہ کے کیا معنی ؟

۲) نماز میں سورہ فاتحہ، اخلاص یا کوئی اور کوئی اور سورہ جو ہم پڑھتے ہیں ان میں صرف اللہ ہی کی حمد و شا اور ملکت و نبودگی کا بیان ہے۔ اسی طرح رکوع و سجود میں اُسی کی تسبیح و تہلیل بیان ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم تشدید کے لیے بیٹھتے ہیں تو حضور سردار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ تشدید اور دعاؤں مدد و شریف دلیرہ۔ کیا اس طرح حضورؐ کی بھارت میں شرکی نہیں ہو جاتے؟

۳) دعاؤں مدد و شریف جو ہم پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ حضورؐ اس طرح نہیں پڑھتے ہوں گے۔ کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد و علی آل محمد راے اللہ رحمت فرم احمد پر اور محمد کی آل پر۔ یہ دعاؤں مدد و شریف درحقیقت دعا میں ہیں اور اسی طرح اور دعا رپ اجتنی بھی۔ بھارت نام دعاویں کا نہیں بلکہ اُس خالق ارض و سما کی حمد و شنا بیان کرنے کا ہم ہے تو کیا یہ زیادہ مناسب نہیں کہ بھارت کے اختتام پر دعا میں مانگی جائیں، بُنیت اس کے کہ عین بھارت میں دعا میں مانگی شروع کر دی جائیں؟ میرا خیال ہے کہ حضورؐ خود تشدید اور دعا شریف دفیر و نہیں پڑھتے ہوں گے کیونکہ آپ سے یہ بعید ہے کہ ہم نماز میں آپ اپنے لیے مانگنے لجھتے۔ پھر فرما تشدید پر غور فرمائیے۔ ظاہر ہے کہ مدد کی طرح اگر حضورؐ تشدید بھی پڑھتے تھے تو وہ بھی الگ ہو گا۔ کیونکہ ”اے بنی! تم پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں“ کی وجہ آپ پڑھتے ہوں گے۔ ”بھو پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی

برکتیں نانل ہوں ॥

(۴) اللہ کی جو عبادت ہم بجا لاتے ہیں اس کا نام الصلوٰۃ یعنی نماز ہے پھر یہ فرض سنت، وہ نفل کی چیزیں ہیں اور یہ پڑھ کر ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ جاتے تو ہم ہیں اللہ کی عبادت بجا لانے اور پڑھنے لختے ہیں نماز سنت۔ جس کی نیت بھی یوں باندھتے ہیں، دو رکعت نماز سنت سنت رسول اللہ کی دغیرہ دغیرہ۔ کیا اس طرح بھی حضورؐ کا اللہ کی عبادت میں شرک کیب ہو جانا ثابت نہیں ہوتا؟

(۵) نماز کے آخر میں جو سلام ہم پھر لتے ہیں اس کا مفہوم کون ہے؟

(۶) کیا حضورؐ بھی روزانہ پانچ نمازوں بجا لاتے تھے؟ اور اتنی ہی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اس سوال کی قدر سے یہ میں نے تحقیق کی تیکن کوئی مستند حوالہ فی الحال ایسا نہیں ملا کہ اس سوال کا جواب ہوتا۔ بخلاف اس کے بخاری شریف میں یہ حدیث نظر آئی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہرا در عصر کی دو دو رکعتیں پڑھیں۔ اسی طرح مذکون کتاب الصلوٰۃ میں یہ مکھا دیکھی کر رات دن کی نماز دو دو رکعت ہے۔ یہ دو دو حدیثیں دو دو رکعت نماز ثابت کرتی ہیں۔

ان خیالات دشکوک نے زہن کو پہاگنہ کر رکھا ہے اور اگر مجھے تیکن سا ہوئے مگما ہے کہ بخاری موجودہ نمازوں نہیں ہے جو آنحضرتؐ نے تباہی ہوگی۔ خدا را میری الْجَنْ کو دور فرمائیے اور مجھے

گراہ ہونے سے بچائیے۔ مجھے نماز چھوٹ جانے کا خطرہ ہے۔

جواب:-

آپ کے دل میں اگر وساوس پیدا ہو اکریں تو ان کی وجہ سے نماز ترک نہ کر دیا کریں۔ بلکہ نماز پڑھنے رہیں اور اپنے وساوس کے متعلق کسی جانشینی والے سے پوچھ کر اپنا طیننان کر لیا کریں۔

جو سوالات آپ نے کیے ہیں اُن کے جوابات یہ ہیں :

(۱) اذان میں محمد صل اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دی جاتی ہے نہ کہ خدا ہونے کی۔ پھر آپ کے دل میں یہ شہرہ کیوں پیدا ہوا کہ رسالت کی شہادت دیتے سے عبادت میں شرک واقع ہو جائے گا؟ رسالت کی شہادت تو اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم خدا کی عبادت اُس عقیدے اور طریقے کے مطابق کر رہے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم نے خود اپنی فکر سے یہ طریقہ اور عقیدہ ایجاد نہیں کر لیا ہے۔

(۲) تشدید کی پوری عبارت پر آپ خود کریں۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر رسول ﷺ کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اپنے حق میں اور تمام نیک بندوں کے حق میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی وحدتیت اور محمد صل اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں جو دراصل اللہ تعالیٰ ہی سے اس امر کی دعا ہے کہ وہ حضور پر اپنی نوازشات کی بارش فرمائے۔ پھر اللہ سے اپنے حق میں اور اپنے دالدین کے حق میں بخیر شکر کی دعا کرتے ہیں۔ ان سارے مرضعین کو آپ خود دیکھیں۔ ان میں کیا چیز ہے

چھے آپ شرک کہ سکتے ہیں؟ یہ تو ساری رہائیں اللہ تعالیٰ ہی سے ہیں۔ کیا اللہ سے دعا کرنے کا شرک ہے؟ اور کیا اللہ کے رسول کو رسول ماننا بھی شرک ہے؟

(۳) یہ خلاطِ فہمی آپ کو کہاں سے ہو گئی کہ عبادتِ حرفِ اللہ کی حمد و شنا کرنے کا نام ہے اور اللہ سے دعا کرنے عبادت نہیں ہے۔ دعا تو روحِ عبادت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ان مشرکین کو جو غیرِ اللہ سے دعا میں مانگتے ہیں، غیرِ اللہ کی عبادت کرنے والے قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اکثر مقامات پر **يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ** کے بجائے **يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ** کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ہی سے دعا مانگو۔

یہ تشبید جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حضورؐ نے صحابہ کو سکھایا تھا اور انہیں ہدایت فرمائی تھی کہ تم یہ پڑھا کر دو، اس لیے ہم کو نماز میں یہی پڑھنا چاہیے۔ رہا حضورؐ کا اپنا تشبید، تو اس کے متعلق احادیث میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ حضورؐ خود کیا پڑھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تشبید میں الفاظ مختلف ہوتے ہوں۔ اور یہ بھی بعینہ از قیاس نہیں کہ حضورؐ خود بھی یہی تشبید پڑھتے ہوں۔ اگر ہم نماز میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو آخر آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے کہ حضورؐ بھی نماز میں اپنے لیے دعا فرماتے ہوں؟ اسی طرح اگر ہم حضورؐ کے بنی ہونے کی شہادت نماز میں دیتے ہیں تو اس میں آخر کیا ضرر ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بتوت کی شہادت دیتے ہوں؟

(۴) فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی دو عبادت جو اس کے عائد کردہ ذریفہ صلوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے کم سے کم لازم ہے۔ جس کے بغیر حکم کی تعمیل

سے ہم قاصر ہ جائیں گے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی وہ عبادت جو فرض کے علاوہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم پریشہ اور ایک کرتے تھے اور جس کی آپ نے ہیں تاکید کی ہے۔ نفل سے مراد ہے خدا کی وہ عبادت جو ہم اپنی خوشی سے کرتے جسے ہم پر نہ لازم کیا گیا ہے اور نہ جس کی تاکید کی گئی ہے۔ اب فرمائیے کہ اس میں شرک کیا ہے آگئی؟ ”سنت رسول اللہ کی“ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض سے زائد پڑھا کرتے تھے اور آپ کے اتباع میں ہم بھی پڑھتے ہیں۔

(۵) کسی عمل کو ختم کرنے کے لیے آخر اس کی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ نماز ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ جو قبلہ رو بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، اب دنوں طرف منہ پھیر کر اس عمل کو ختم کر دیں۔ اب منہ پھر نے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ پچھے سے منہ پھیر دیں اور دسری صورت یہ ہے کہ آپ خدا سے تمام خلق کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے منہ پھریں۔ آپ کو ان میں سے کوئی سی صورت اپنند ہے؟

(۶) جن احادیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اتہدائی دادر کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جب کہ نماز کے احکام تبدیل شک مکمل ہو چکے تھے ہی تھا کہ آپ پانچوں وقت وہی رکعتیں پڑھتے تھے جو اب تمام مسلمانوں میں رائج ہیں۔ یہ چیز دسری متعدد احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی کا جو قول آپ نے نقل کیا ہے وہ نوافل سے متعلق ہے۔

اجنبی ماحول میں تبلیغِ اسلام

سوال :-

میں علی گڑھ ہو یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ ہوں اور آج کل نامُحیر پاہیں بحثیت سائنس ٹھیکانہ کام کر رہا ہوں۔ جب میں ہندوستان سے بیہاں آ رہا تھا اس وقت خیال تھا کہ میں ایک مسلم اکثریت کے علاقے میں جا رہا ہوں اس لیے شرعی احکام کی پابندی میں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ لیکن بیہاں اگر دیکھا تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔ جس علاقے میں میرا قیام ہے یہ غیر مسلم اکثریت کا علاقہ ہے۔ بیہاں عیسائی مشرز نیز خوب کام کر رہے ہیں۔ بہت سے اسکوں ادھ ہسپتاں ان کے ذریعے سے چل رہے ہیں۔ مسلمان بیہاں پا پنج فیصد ہی سے زیادہ نہیں ہیں اور وہ بھی تعلیم کے میدان میں بہت سچھے ہیں۔ انگریزی نہیں بول سکتے حالانکہ ہر ایک عیسائی تھوڑی بہت انگریزی بول سکتا ہے پڑھے سچھے لوگوں کی بہت اگلے ہے۔ بیہاں پر بہت سے غیر ملکی ٹھیکانے اور سو اگر کام کر رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر عیسائی اور ہندو ہیں۔ میں اپنی طرز کا اکیلا ہوں۔ میرے شہر میں میں بہت چھوٹی مسجدیں ہیں۔ دہ بہت ہی شکستہ حالت میں ہیں۔ اس کے علاوہ دُور فُدر کیلئے اذان کی آواز بھی نہیں آتی۔ یہ ملک اکتوبر میں آزاد ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلم ٹھیکانے کے مقابلہ میں مغربی اور عیسائی ٹھیکانے بہت نہیں ہیں۔ شراب کا استعمال شاید مغربی ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ان سب کے

ہو جو درد باتیں یہاں خاص طور پر دیکھنے میں آئیں۔ ایک انسانی ردا داری اس مطلعے میں یہ لوگ ہم سے بڑھے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسلمان یہاں ہیں ان کے اور پر مغربی طرز فکر کا اتنا اثر نہیں پہوا جتنا کہ ہمارے ہاں ہے۔ ملکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ لوگ اب تک مغربی تعلیم کا باسیکاٹ کرتے رہے ہیں۔

ان حالات میں آپ شورہ بیکے کہ کس طرح اسلام کی صحیح نمائندگی کی جائے اور یہاں کے لوگوں کو انگریزی میں کونسا لشیخ پر دیا جائے پڑھا سکھا جائے انگریزی لشیخ پر سمجھو سکتا ہے۔ ”پورہ“ کی طرح الگ کرنی کتاب شراب نوشی پر اسلامی نقطہ نظر سے سمجھی گئی ہو تو اس سے بھی مطلع فرمائیے!

دوسرے یہ بھی آپ سے شورہ چاہتا ہوں کہ لیے ہے حالات میں کس طرح انسان صحیح راہ پر قائم رہے جبکہ ما حول اور سوسائٹی دوسرے رنگ میں رنگے ہوں۔

فینی حسب فیل چیزوں پر الگ روشنی ڈالیں تو آپ کا خسکو رہوں گا۔
 ۱۔ یہاں پر دعوتوں اور پارٹیوں میں شراب کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے ایسی صورت میں ان دعوتوں میں شرکت کرنا چاہیئے یا نہیں؟ اب تک میرا طرز عمل یہ رہا ہے کہ ایسی جگہوں پر ضرور شرکت کرتا ہوں اور شراب اور دوسری اس قسم کی چیزوں سے انکار کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم ان کو یہ احساس ہو جائے کہ بعض لوگوں کو ہماری یہ مرغوب غذہ ناپسند ہے۔
 ۲۔ ان کے بیٹنوں میں کھانا اور مپنا درست ہے یا نہیں؟

۲۔ بہت سی چیزوں میں جن میں الکول کی تھوڑی بہت آئیش ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ ان کا استعمال جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟

۳۔ اگر کوئی دعوت کچھ لوگوں کو یہاں دی جائے تو اس میں شراب دی جا سکتی ہے یا نہیں جو کیونکہ یہاں کے لوگ بغیر شراب کے دعوت ہی نہیں سمجھتے اور اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے تو اس کا کیا بدل دیا جائے؟

جواب:-

خوشی ہوں اکر آپ کو ملک سے باہر ایک اپنی جگہ کام کرنے کا موقع ٹالا ہے جہاں آپ اسلام کی بہت کچھ خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی جگہ یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ آپ پہاڑوں مسلمانوں اور غیر مسلموں، سب کے سامنے حقیقی اسلام کی نمائندگی کے لیے مأمور ہیں، اور اپنے قولِ معلم سے اگر آپ نے ذرا بھی غلط نمائندگی کی تو بہت سے بندگوں خدا کی گمراہی کا دربار آپ کے اوپر ہو گا۔ اس احساس کے ساتھ اگر آپ ہاں رہیں گے اور حداستی عدت تک اسلام کو شیکھ سمجھ کر ایک مسلمان کی زندگی کافروں بننے کی کوشش کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ یہ آپ کی اپنی ترقی کے لیے بھی مفید ہو گا اور کیا محیب کریمی چیز آپ کے ہاتھوں بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی ہیں جائے جس کا اجر آپ کو خدا کے ہاں نصیب ہو۔

درہاں کے جو حالات مجھے آپ کے خطے سے معلوم ہوئے ہیں ان پر غور کرنے کے بعد میرے خود یہ کام کی جو صورت میں مناسب ہیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔

مقامی زبان سیکنے اور بولنے کی مشق کریں اور صرف انگریزی پر اتفاقاً نہ کریں۔ غیر ملک میں جب ہاہر کا کوئی شخص مقامی لوگوں سے ان کی اپنی زبان میں بات کرتا

ہے تو دوہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی بات بڑی دلچسپی سے سننے ہیں۔ مقامی مسلمانوں کے ساتھ ربط ضبط بڑھائیے۔ ان کو صحیح دین سمجھانے اور اسلامی طور پر یقین سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ ان میں سے جو کے بچے آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہوں ان پر خاص توجہ کیجئے۔ تاکہ درآپ کو اپنا ہمدرد بھیں دوسرے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو بھی اگر آپ ان کی تعلیم میں کچھ مدرسے سکتے ہوں تو خود دیکھئے۔ جو لوگ آپ سے انگریزی پڑھنا چاہتے ہوں انہیں پڑھائیے۔ اس طرح ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کیجئے اور پھر ان کے انہیں کا صحیح علم و عمل پھیلانے اور ان کے حالات درست کرنے کی سہیل نکالیے ان میں اگر کچھ بااثر آدمیوں سے تعلقات ہو جائیں تو انہیں مسلمانوں کے حالات کی اصلاح کے طریقے بتائیے اور اخلاق و محنت کے ساتھ کام کرنے پر اعتماد رکھئے ہے غرضی، محبت، تواضع اور حقیقی خیر خواہی کے ساتھ جب آپ ان کی بھلاکی کے لیے کوشش ہوں گے تو دیرہ یا سورہ، اشارہ اللہ اکیف و ن آپ ان کے دل انہی مسٹھی میں لے لیں گے اور وہ آپ کے کہنے پر چلنے لگیں گے۔

جس مدرسے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں اپنے طرزِ عمل سے اپنی اہمیت، فرض شناسی اور بلند اخلاقی کا سکھہ بھانے کی کوشش کیجئے، یہاں تک کہ طلبہ اور اساتذہ اور منتظمین سب پر آپ کا اخلاقی اثر قائم ہو جائے۔ پھر وہ راستے تلاش کیجئے، جن سے آپ غیر مسلم طلبہ اور اساتذہ میں اپنے خالات پھیلا سکیں۔ اس معاملہ میں فایت درجہ تدبیر و دانانی کی فرودت ہے۔ جو موقع بھی اسلام کی نمائندگی کا ہے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ لیکن ایک قدم بھی فلکہ نہ اٹھائیے وہ نہ تائیج اٹھے برآمد

ہوں گے۔ طبیب کی دانائی اسی میں ہے کہ وہ مردیں کو تھیک دواں خوراک برداشت دے، اذکر خوراک دے اور نذر بیادہ دے بیٹھے۔

وہم لوگ جن سے آپ کا میل جوں ہڈان سے اپنی گفتگووں میں مناسب طریقے پر اسلام کا تعارف کرائیے۔ مغربی ہندیب کی کنز دریاں ان پر واضح کیجئے۔ عیسائیت کی ناکامی اس حد تک انہیں سمجھائیے جس کے سننے کا ان میں تکملہ ہو۔ پھر جن لوگوں میں اسلامی طریقہ دینے کی خواہش آپ پا میں ان کو مخدول شریخ پڑھنے کے لیے دیجئے۔ ہمگ پیدا یکے لغیرہ را کیوں کو طریقہ دینا شروع نہ کر دیجئے۔ انگریزی شریخ کی فہرست آپ کو بیہار سے بھجوادی جائے گی اسے منگو اکر اپنے پاس رکھ لیں۔

غیر مسلموں میں سے جن کے اندر آپ خاص صلاحیت، سلامتیت طبع اور حق پسندی محسوس کریں ان سے ذاتی تعلقات بھی بڑھائیے اور ان پر خصوصیت کے ساتھ کام بھی کیجئے تاکہ اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ لیکن اپنے ہاتھ پر کسی کو مشرف ہسلام کرنے سے پہ نہیز کیجئے۔ جو شخص بھی مسلمان ہونا چاہے اسے مقامی مسلمانوں کے پاس بھیجئے۔

شراب نوشی کے خلاف انگریزی میں بہت سال شریخ موجود ہے۔ آپ (Church of England Temperance Society) سے لندن کے پتہ پر اور (Anti Saloon League America) سے داشتکش کے پتے پر مراحلت کر کے اس مومنوں کے متعلق شریخ کی فہرستیں منگوالیں اور مناسب کتابوں کا انتخاب کر لیں۔

اب مختصر طور پر آپ کے سوالات کا جواب عرض کرنا ہوں۔

۱۔ دوسروں کی طرف سے اگر آپ کو دعوت دی جائے تو اس میں ضرر

شرکت کریں۔ کیونکہ اس کے بغیر آپ ان کی اصلاح کے لیے ان سے گھل مل ن سکیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اگر آپ الیٰ غلوں میں شرکیں ہوں جہاں لوگ شراب پینے ہوں تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں مذاخذہ نہ ہو گا۔ آپ ان کی غلوں میں شرکیں ہو کر غلامیہ نہ صرف یہ کہ شراب پینے سے پہ بیز کریں بلکہ کھلم کھلا اس پہ بیز کے معقول وجہ ہر پوچھنے والے کو اپنے طریقے سے سمجھائیں کہ اسے ناگوار خاطر نہ ہو۔ شرابیوں کی مغل میں ان لوگوں کی شرکت تو بلاشبہ صفر ہے جو شراب نہ پینے پر شرمناتے ہوں، لیکن ان لوگوں کی شرکت بہت مفید ہے جو دھڑتے کے ساتھ شراب نوشی سے امکار کریں اور دلیل کی طاقت سے شراب پینے کی بدالی دیں اسی مغل میں ان لوگوں کو سمجھانے پر آمادہ ہو جائیں جوان سے شراب نہ پینے کے درجہ دریافت کریں۔ یہ توبہ ترین تبلیغ ہے جس پر میں خدا سے اجر کی توقع رکھتا ہوں۔

۲۔ ان کے صاف دھنے ہر بیرونی میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ کو الحینان ہو کہ وہ کسی حرام چیز سے موت نہیں ہیں۔ الحینان نہ ہونے کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ دعوت دصول ہوتے ہی اپنی اولیں فرصت میں ملامی کو اپنے اصول اور مسلک سے آگاہ فرمادیں اور ان کو سمجھیں کہ آپ کے ساتھ دلوں میں ان اصولوں کو محفوظ رکھا جائے۔

۳۔ جن چیزوں میں الکوہل کی آمیزش ہوان کا استعمال اس وقت تک نہ کرنا چاہیے جب تک کوئی ملیب آپ کی جان بچانے کے لیے یا آپ کی محنت کو غیر معمولی نقصان سے بچانے کے لیے اس کا استعمال ناگزیر نہ تباہے۔

۴۔ آپ خود جن لوگوں کو مدعو کریں ان کو ہرگز شراب نہ پالیں۔ دعوت دینے سے پہلے آپ کو انہیں آگاہ کر دینا چاہیے کہ آپ دعوت میں اپنے اصول کے خلاف کسی کو شراب نہیں پیش کر سکتے۔ اس شرط پر جو لوگ آپ کی دعوت قبول کریں صرف انہی کو مدعو کیجئے۔ شراب کا بدل پیش کرنا ہو تو پاکستان یا ہندوستان سے شربت روح افزاں یا الیکٹریکی کوئی اندھوش نگہ دمعطر شرب ملگوا لیجئے۔ امید ہے کہ وہ ان لوگوں کو بہت پسند کرے گا۔

ترجمان القرآن جلد ۳۵، عدد ۱۔ اپریل ۱۹۷۰ء

کبار و زرے کی طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ دیا جاسکتا ہے؟

سوال :-

یہاں کمیل پور میں ایک صاحبِ علم نے پھرپڑے ماہ رمضان میں ایک نذر کھڑا کیا تھا کہ رمضان کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیات بیکثت نازل ہوئی تھیں اس بیان کے اللہ نے شروع میں جو رعایت دی ہے کہ ”جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، اندھپر نہ رکھیں، تو وہ فدیہ ادا کریں“ یہ ایک اہل رعایت ہے اور اب بھی اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس کی حمایت میں ایک آیت ۸۲ کے آفری حصہ کو پیش کیا گی کہ اگر روزہ رکھو تو پتھر ہے اور نہ رکھو تو فدیہ ادا کر دے۔ اُن کا کہنا تھا کہ آیت ۸۲ اپنی آیات کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی اور پہلی آیات کی رعایت

کو کیسے چین سکتی ہے۔

آپ کی تفسیر کے مطابع سے معلوم ہوا کہ آیات ۱۸۲ اور ۱۸۳ اتو جنگ بدر سے پہلے نہیں میں نازل ہوئیں اور آیت ۱۸۴ ایک سال بعد نازل ہوئی۔ اگر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو پھر ان کے اس خیال کی تہ دید ہو سکتی ہے کہ آج بھی ایک تندروست ہٹا کر انسان فدیہ دنے کر روزے کی فرضیت سے پنج ملتا ہے۔

مذکورہ بالا صاحب اپنے آپ کو علم حدیث کے استاد اور قرآن کے مفسر سمجھتے ہیں۔ احمد ہرودر کے متعلق اپنے افکار و خیالات دنیا کے سامنے پیش کر رکھے ہیں۔ آپ بڑا و مہربانی کی تحریف گورا کر کے ان کتب کا حوالہ دے دیں جن سے آپ کو ثبوت ٹال ہو کر آیات ۱۸۲ اور ۱۸۴ اتو جنگ میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئیں اور آیت ۱۸۴ ایک سال بعد نازل ہوئی۔ اس طرح ہمارے پاس ایک سند ہو جائے گی اور ہم انہیں لپنے خاص خیالات کی نشر و اشاعت سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اسلام کی ہی خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ مزدہ ہمیں اپنے افکار و عالیہ سے مستفید فرمائیں گے۔

جواب ۔ ۔ ۔

اس سوال میں جس قتنے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا فنا تو خود اس کے موضوع و مضمون ہی سے ظاہر ہے۔ اس کے مضمون کا صاف مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ بشرخان میں روزے کرنے کی "وصیت" سے خود بھی بچپن اور اے

ہم مشرب "صاحب لوگوں" کو بھی بجا میں۔ عام فتاوی غیرت ہی رکھنی کھلی نافرمانی کا روئیہ اختیار کرتے ہیں اور جو نافرمانی کرنے چاہتے ہیں اسے بے معا باگر گزنتے ہیں۔ ان میں کم از کم یہ مکاری موجود نہیں ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے خود خدا پر کی کتاب کو محبت بنایاں۔ لیکن نذالی قسم کے فتاوی وہ ہیں کہ اپنے فتن و غور کے لیے قرآن کو آٹھ بندتے ہیں، اور قرآن سے یہ خدمت لینے ہی کے لیے انہوں نے اس کا رشتہ حدیث سے توڑا ہے تاکہ اس کی آیات کو جیسے چاہیں معنی پہنچائیں، ان لوگوں کو آج کھلی جھٹی مل ہوئی ہے۔ جس طرح چاہتے ہیں خلق خدا کو خدا کی کتاب کا نام لے لے کر خدا کے دین سے پھرستے ہیں۔ پہلے انہوں نے "در قرآن" تصنیف کیے تھے۔ پھر "رو اسلام" وضع کیے۔ آسے چل کر یہ "رد خدا" بھی بناؤالیں تو کون ان کا ماتھ پھر سکتا ہے۔

ردوزوں کے بارے میں قرآن سے جو غلط استدلال انہوں نے کیا ہے اس کی غلطی واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم خود قرآن کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ زیر بحث آیات کا مفہومی ترجیح یہ ہے:

"اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، لکھو دیئے گئے تم پر ردوزے جس طرح
لکھے گئے تھے تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم پر ہمیزگاری کرو۔ ردوزہ
رکھنا چند گئے چنے دنوں کا، پھر جو کوئی تم میں سے مراعین ہو، یا سفر پر ہو،
تو پھر اہونا چاہیے شمار دوسرے دنوں سے۔ اور جو لوگ اس کی رائینی روزے
کی، طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ہے ایک میکین کا کھانا۔ پھر جو کوئی
رضا کا راز بجا لائے نیکی تو وہ بہتر ہے اسی کے لیے اور یہ کہ تم ردوزہ رکھو

یہ بہتر ہے تھا رے یہے اگر علم رکھتے ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، رہنمایا کر انہوں کے یہے، اور روشن آیات یہے ہوئے ہے پڑا، اور تلفیق حق و باطل کی۔ لیس جو پاسے تم میں سے اس ہمینے کو تو چاہیئے کہ اس کے ردے سے رکھے۔ اور جو مراعین ہو یا سفر پہلو پورا ہونا چاہیے، شمارہ دوسرے دنوں سے۔“

وَظَاهِرٌ فِي سُورَةِ الْقُرْآنِ كُو ۖ ۲۲۔ اور اصل سے مقابلہ کر کے خوب امینان کر لیجئے کہ اصل اور ترتیب میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق تو نہیں ہے،

اس جہارت کو جو شخص خالی النہیں ہو کر ٹپھے گا۔ اس کے دل میں لازماً پہلا سوال یہ پیدا ہو گا کہ اگر یہ پوری جہارت ایک ہی سلسلہ تقریبی کے ہے جو یہی وقت ارشاد ہوئی تھی۔ تو اس میں پہلے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا گیا کہ ماہ رمضان میں تم کو یہ نعمت دی گئی تھی اس یہے تم میں سے جو اس کو پاسے اسے چلپیئے کہ اس ہمینے کے ردے سے رکھے! آخر یہ کیا اندازہ بیان ہے کہ پہلے کہا۔ ”ردہ رکھنا چند گئے چندے دنوں کا۔“ پھر تین چار فقرہوں میں ردہوں کے متعلق بعض احکام بیان کیے، پھر تباہی کردہ گئے چندے دن رمضان کے ہیں اور رمضان کو اس کام کے لیے اس وجہ سے منتخب کیا گیا ہے اور اس پورے ہمینے کے ردے سے رکھنے پڑا ہے۔ ایک مربوط سلسلہ تقریبی میں شاید ایک اندازہ بھی اپنی بات یوں ادا نہ کرتا، بلکہ یوں کہتا کہ اگلی قوموں کی طرح تم پہلی ردے فرض کیے گئے ہیں اور جو بعد رمضان کے ہمینے میں تم کو قرآن کی نعمت دی گئی ہے اس یہے یہ فرض ردے سے تم

اس مہینے میں رکھو۔ اس کے بعد اس کو جو کچھ احکام بیان کرنے ہوتے وہ بیان کر دیتا۔

دوسرا سوال ایک خالی الذہن ناظر کے دل میں یہ پیدا ہو گا کہ اس سلسلہ عبارت میں جب پہلے فقرہ آچکا تھا کہ ”جو کوئی تم میں سے ملیعنی ہو یا سفر پر ہو تو پورا ہختا چاہیے شمار دوسرے دنوں سے؟“ تو اسی فقرے کو بعد میں پھر دُہرانے کی حجت تھی؟ اور اگر فی الواقع اس کا دُہرانا ضروری تھا تو پھر یہ فقرہ بھی کیوں نہ دُہرا�ا۔ گیا کہ ”جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا؟“ حقیقت میں ضرورت تو دنوں میں سے ایک کو بھی دُہرلنے کی نہ تھی۔ لیکن ایک کو دُہرانا اور دوسرے کو نہ دُہرانا تو ایک معما سا محسوس ہوتا ہے۔

تیسرا سوال جو اس کے دل میں کھٹکے گا وہ یہ ہے کہ ”ماہ رمضان وہ ہے“ سے پہلے کی عبارت اور اس کے بعد کی عبارت کا مضمون ایک دوسرے سے صریحًا متناقض نظر آتا ہے۔ پہلا مضمون صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص طلاق رکھنے کے باوجود در دزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے دے، لیکن اگر وہ در دزہ ہی رکھے تو یہ اسی کے حق میں اچھا ہے۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا مضمون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے وہ اس میں ضرور در دزہ رکھے، اور اس لازمی حکم کو یہ بات مزید تقویت پہنچا رہا ہے کہ اس حکم کے بعد اس رعایت کا تو اعادہ کر دیا گیا ہے جو پہلے مضمون میں ملی اور سافر کو دی گئی تھی، مگر اس رعایت کو ساقط کر دیا گیا جو اور پر درزے کی طاقت رکھنے والے کو دی گئی تھی۔ ایک مہولی عقل دخادر رکھنے والے قانون ساز سے بھی یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ ایک

ہی معاملوں وہ بیک وقت ذمہ دار احکام دے گا۔ پھر بھلایے فعل اللہ تعالیٰ کے شایان شان کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے دو سوالات صرف سوالات ہی ہیں۔ لیکن یہ آخری سوال تو ایک سخت اعتراض ہے جو اس بھارت پر وارد ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص حدیث سے حدیثے بغیر اسے کیسے رفع کر سکتا ہے۔ جو لوگ حدیث کی مدد کے بغیر قرآن کو سمجھنے کے مدعا ہیں، اور حدیث کو احکام دین کا مأخذ اور قرآن کی مستند شرح مانتے ہیں، انہیں اپنے چھپی کے ان کے پاس ان سوالات اور اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟

اب دیکھیے کہ حدیث کس طرح ہیں قرآن مجید کے اس مقام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جن لوگوں کے سامنے قرآن کے یہ احکام نازل ہوئے تھے، ان کا بیان یہ ہے کہ اس بھارت کا ایک حصہ جو "لے لوگو" سے شروع ہو کر "اگر تم علم رکھتے ہو" پر ختم ہوتا ہے، ابتداءً نازل ہوا تھا، اور دوسرا حصہ اس نکے ایک سال بعد نازل ہوا۔ پہلے سال روزے فرض کرتے وقت یہ رعایت رکھی گئی تھی کہ آدمی روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر روزہ شر کھے تو فدیر دیدے مگر دوسرا سال اس رعایت کو غسونخ کر دیا گیا۔ البتہ مسافر اور مرضی کے لیے سابق رعایت بحال رکھی گئی۔ اس بیان میں نہ صرف یہ کہ مدارے اشکالات رفع ہو گئے، بلکہ یہ بات بھی بھروسہ میں آگئی تھک دوسرا سال آخری اور قطعی حکم دیتے ہوئے یہ تمہید کیوں اٹھائی گئی کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تمہیں قرآن جیسی نعمت دی گئی ہے۔ اب بات سمجھ میں آگئی کہ پہلے اللہ کی اس نعمت کا احساس دلا یا گیا، پھر حکم دیا گیا کہ اس نعمت

کے شکریے میں تم کو اس مہینے کے روزے سے خود رکھنے چاہیں۔

محمد بن وفسر بن نے یہ تشریح متعدد صحابہ اور تابعین سے نقل کی ہے۔ مثلاً امام احمد بن حنبل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک طویل تشریحی بیان نقل کرتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نماز اور روزہ، دونوں کی موجودہ صورت پر تبدیل کی گئی ہے۔ نمازوں میں پہلے بیت المقدس کی طرف رُخ کیا جاتا تھا۔ پھر تکے کی طرف رُخ پھیرا گی۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کو نماز کے وقت اطلاع دیتے تھے پھر ازان کا طریقہ مقرر کیا گی۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص یعنی کسی مرحلے پر اگر جماعت میں شرکیہ ہوتا تھا تو اپنی نماز کا چھوٹا ہوا حصہ ادا کرنے کے بعد امام کی پیروی شروع کرتا تھا۔ پھر یہ طریقہ مقرر کیا گی کہ جماعت میں جس مرحلے پر بھی اگر شرکیہ ہو امام کی پیروی میں نماز پڑھنی شروع کر دو۔ پھر امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اللہ کر اپنی نماز پوری کر دے۔ اسی طرح روزے کے احکام بھی تبدیل آئے ہیں۔ جب بنی اسرائیل مسلم دینیہ قشریت لائے تو آپ ہر مہینے تین دن کے روزے رکھتے تھے، اور ایک روزہ محرم کی دسویں کو رکھ کرتے تھے پھر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اگر یہ رعایت رکھی کہ جو روزہ نہ رکھ دو ایک ملکیں کو کھانا کھلانے بے۔ اس کے بعد حکم آیا کہ رمضان کے روزے خود رکھے جائیں۔ اور تندروست مقیم آدمی کے لیے فدیے کی رعایت غوشہ کر دی۔ پہلے لوگ افطار کے بعد اس وقت تک کھانا پینا، مباشرت کرنا جائز سمجھتے تھے جب تک مو ش جائیں۔ ہونے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اگرچہ اس باب میں کوئی صریح حکم نہ تھا۔ مگر لوگ ایسا ہی سمجھے ہوئے تھے۔ بعد میں حکم آیا

لَمْ كُنْتُ أَحْمَلُ نَكْمَةً تَيْلَةً إِلَيْهَا مَرَفَثٌ إِلَى نَسَاءٍ كُفَّارٍ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ
أَتَمْتُوا الْعِيَادَةَ إِلَيْهِ التَّشِيلَ - (امان کثیر۔ ج ۱۔ ص ۲۱۳) -

اس مصنون کی تائید میں بخاری، مسلم، ابو داؤد اور دوسرے محدثین نے متعدد روایات
نقل کی ہیں۔ جو حضرت عائشہ، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن سعید اور حضرت
سلیمان بن اکوع رضی اللہ عنہم سے مردی ہیں۔ مشہور مفسر ابن جری طبری (متوفی ۷۱۰ھ)
نے پوری سند کے ساتھ حبیب صحابہ اور تابعین سے اس کی تائید میں روایات نقل کی ہیں
ان کے نام یہ ہیں، معاذ بن جبل، ابن عمر، ابن عباس، سلمہ بن اکوع، علقہ، علقمہ
حسن بصری، شعبی، عطہ، زہری۔ ان میں سے ایک روایت میں وہ حضرت معاذ بن جبل
کی یقینی نقل کرتے ہیں کہ پہلے چونکہ اپنے ربِ روزوں کے عادی شرطے اور روزہ
ان پر سخت گزار گزرتا تھا۔ اس لیے ان کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ رمضان میں جس
دن روزہ نہ کھیں اس دن کسی مسکین کو کھانا کھلادیں۔ بعد میں تائیدی حکم آگیا کہ پوتے
ہیئے کے روزے رکھو لا یہ کہ تم ملکی ہو یا سفر پر ہو۔ ایک اصر رعایت میں وہ
ابن عباسؓ کی یقینی نقل کرتے ہیں کہ پہلے سال کے روزوں میں اللہ تعالیٰ نے فدیے
کی خصت رکھی تھی، مگر دوسرے سال جو حکم آیا اس میں ملکیں و سافر کی رعایت تو
محال تھی۔ لیکن مقیم کے لیے فدیے کی رعایت کا ذکر نہ تھا، اس لیے یہ رعایت
فسوخ ہو گئی۔

اس قشرتیج سے ہر شخص خود اندازہ کر سکتا ہے کہ جو لوگ حدیث سے بے نیاز
ہو کر بلکہ احادیث کو حقارت اور تفحیک کے ساتھ پہنچنکر قرآن سے منہانے
احکام نکال رہے ہیں وہ کس طرح خود گراہ ہو رہے ہیں اور عام مسلمانوں کو گراہ کر رہے
ہیں۔

جرالوں پر سعی

سوال ۱۔

موزوں اور جرالوں پر سعی کے درے میں علاوہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں آج کی تعلیم کے ملے میں سکاث لیش کے شمول جمعتے میں مقیم ہوں یہاں جاڑے کے موسم میں سخت سری پتی ہے، اور لوگوں جواب کا ہر وقت یعنی ناگزیر ہے، کیا ایسی جواب پر بھی سعی کیا جاسکتا ہے؟ براء نوازش اپنی تحقیق احکام شریعت کی مذہبی میں تحریر فرمائی۔

جواب ۱۔

جانشیک چڑھے کے موزوں پر سعی کرنے کا قلعہ ہے اس کے جواز پر قریب قریب تمام اہل سنت کا تفاہق ہے۔ مگر سوتی اور اُولنی جرالوں کے معاملے میں عوامہ کے فقہاء نے یہ شرط لگانی ہے کہ وہ موٹی ہوں، اور شفاف نہ ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کی چلنے لظر آئے، اور وہ کسی قسم کی بندش کے بغیر خود قائم رہ سکیں۔ میں نے اپنی امکان حد تک یہ کوشش کرنے کی کوشش کی کہ این شرائط کا مأخذ کیا ہے۔ مگر سنت میں ایسی کوئی چیز نہ مل سکی۔ سنت سے جو کہہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ بنی حیل الشدیہ دلم نے جرالوں اور جو قدر پر سعی فرمائی ہے۔ نماش کے برا کتب سنن میں اور شیخ احمد میں مغیرہ بن شعبہ کی روایت موجود ہے کہ بنی حیل الشدیہ دلم نے وضو کیا اور مسخ علی العبور میں والتعلیم را پی جرالوں اور جو قوں پر سعی فرمایا، الہ وا ذکر کا بیان ہے کہ حضرت علی (رض) عبد اللہ بن مسعود، بشار

ابن عازب، انس بن مالک، ابو امام حنفی، سہل بن سعد اور عمر و بن حفیث نے جبراہی پر
مسح کیا ہے۔ نیز حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ فتاویٰ برداشتی ہے۔ بلکہ
بیہقی اور طحا وادی نے اوس بن ابی اوس سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور نے حنفی
جو قول پر مسح فرمایا ہے۔ اس میں جبراہی کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہی عمل حضرت علی
رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ ان تعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
جبراہی اور صرف جوستے، اور جبراہی پہنچے ہوئے جوستے پر مسح کرنے بھی اُسی طرح
جاڑے ہے جس طرح چپڑے کے موڑوں پر مسح کرنا۔ ان روایات میں کہیں یہ نہیں
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہار کی تجویز کردہ شرائط میں سے کوئی شرط بیان فرمائی
ہو، اور نہ یہی ذکر کسی جگہ ملتا ہے کہ جن جبراہی پر حضور نے اور مذکورہ بالاصحابہ نے
مسح فرمایا وہ کیس قسم کی تھیں۔ اس لیے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ فقہار کی خالد کردہ
ان شرائط کا کوئی مأخذ نہیں ہے۔ اور فقہار چونکہ شارع نہیں ہیں، اس لیے ان
کی شرطوں پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو وہ گنہ نکار نہیں ہو سکتا۔

امام شافعی[ؓ] اور امام احمد[ؓ] کی راستے پر ہے کہ جبراہی پر اس صورت میں آدمی
مسح کر سکتا ہے جبکہ آدمی اور پسرے پہنچے رہے۔ لیکن اور پر جن صحابہ کے آثار نقل
لیے گئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس شرط کی پابندی نہیں کی ہے۔

مسح علی الخفین پر غور کر کے میں نے جو صحابہ ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ
تینم کی طرح کی ایک سہولت ہے جو اہل ایمان کو ایسی حالتوں کے لیے دی گئی
ہے جبکہ وہ کسی صورت سے پاؤں ڈھانٹنے کے لئے پر مجبور ہوں اور بار بار پاؤں
دھونا ان کے لیے موجب نقصان یا وجہ مشقت ہو۔ اس روایت کی بناءً اس

مفرد ضمیر پر نہیں ہے کہ ہمارت کے بعد موزے پہن لینے سے پاؤں بجاست
سے مخاطر ہیں گے اس لیے ان کو دھونے کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ بلکہ اس
کی بنا اشد کی رحمت ہے جو بندوں کو سہولت عطا کرنے کی مقصودی ہوئی۔ لہذا
ہر دھنیز جو مردی سے یا راستے کے گرد غبار سے بچنے کے لیے یا پاؤں کے کسی
ذمہ کی حفاظت کے لیے آدمی پہنے اور جس کے پار پار آتا رہے اور لپھر پہنے
میں آدمی کو زحمت ہو، اس پر مسح کیا جاسکتا ہے، خواہ دہ اونی جواب ہو یا
سوچ، چڑھے کا جوتا ہو یا کر پچ کا، یا کوئی پکڑا ہی ہو جو پاؤں پر لپیٹ کر باندھ
لیا گیا ہو۔

میں جب کسی کو دھنو کے بعد مسح کے لیے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے
وں بھیتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ بندہ اپنے خدا سے کہہ رہا ہے
کہ "حکم ہو تو ابھی یہ موزے کیجئے لوں اور پاؤں دھو ڈالیں، مگر چونکہ سرکار
ہی نے رخصت عطا فرمادی ہے اس لیے مسح پر اتفاق کرتا ہوں"؛ میرے نزدیک
در اصل یہی معنی مسح خل المخفین وغیرہ کی جتعیقی روایت ہیں اور اس روایت کے اعتبار سے
وہ تمام چیزیں بھیاں ہیں جنہیں اُن ضروریات کے لیے آدمی پہنے جن کی رعایت
ملکو ظرور کرو کر مسح کی اجازت دی گئی ہے۔

در ترجمان القرآن۔ ز رمضان، شوال، ۱۳۷۲ھ۔ جون، جولائی ۱۹۵۱ء۔

مُعاشرتی مسائل

مہر غیر موْجَل کا حکم

سوال:-

اگر وقت خردت فریہر کی صرف تعداد مقرر کر دی گئی اور اس امر کی تصریح نہ کی گئی ہو کہ یہ مہر میں ہے یا موْجَل تو آیا اس کو میں قرار دیا جائے گا یا موْجَل ؟ اس مندر میں عمارت سے استفسار کیا گیا مگر جواب مختلف آئے۔ مثلاً چند جواہات یہ ہیں :-

مولانا محمد کفایت اللہ صاحب دریغہ خلاد دہلی :-

”اگر مہر میں موْجَل کی تصریح بھی ہو مگر اجل مبہول بھالت فاحشہ ہو تو مہر میں بھالت ہے اور جبکہ میں یا موْجَل کا لفظ استھان نہ کیا جائے بلکہ واجب الامر کا لفظ کو دریا جائے تو یہی میں میں ہو گا کیونکہ بغیر ذکر اجل کے موْجَل نہیں ہو سکتا۔ الا اذا اجل موْجَل الاجل جعلۃ فاحشة فیجب حالہ غایہ لعدمیان و ان کا نت جعلۃ متفاہشة کا لی المیسر تو

الى حبوب البريمج الى ان تمطر السماء ، فالاجل لا يثبت
وميحب المهر حالاً - وكذا غامية البيان (درد الفنار)
مولانا سید احمد صاحب درس مدنسہ الاصلاح سرائے میرضع عظیم
گزٹھ -

” ہر موْجل اس وقت ہو گا جب بوقت عقد نکاح اور اُسے ہر کے لیے
وقت اور تاریخ کی تعین ہو - یہی حال تمام معاملات کا ہے۔ اگر کسی
نے ایک دکان سے کوئی چیز فرمی اور بات چیزیں میں تقدیراتا خیر
تعین سماز کرنے نہیں آیا تو وہ معاملہ بھی معجل کے حکم میں ہو گا، خریدار خواہ
فودا قیمت دیدے یا بعد میں دینے کا وعدہ کرے۔ بہر صورت معجل
میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت فوڑا ادا کی جائے بلکہ صاحب حق کو یہ
حق حاصل ہتا ہے کہ فوڑا یا جب چاہے اپنے حق کا مطالبہ کرے اور
معاملہ موجودہ میں اجل اور تاریخ سے پہلے مطالبہ اور تقاضے کا حق
حاصل نہیں ہو گا۔ اس تفصیل کی رو سے معاملہ مسولہ میں زرد ہر معجل ہے
اس لیے عورت جب چاہے اس کا مطالبہ درد عوی کر سکتی ہے ”
مولانا سید سلیمان ندوی :-

ذر ہر میں اگر معجل یا موْجل کی کوئی تفصیل نہیں ہے تو عرف کا اعتبار
کیا جائے گا۔ وقاریہ میں ہے والمعجل و الموجل ان بینا
فذا الک والا فالمعارف۔ اگر معجل اور موْجل دونوں بیان کر دیے
گئے ہیں تو جیسا بیان کر دیا گیا ہے ولیا ہو گا درد عرف کا اعتبار ہو گا ”

مولانا عبدالرحمن صاحب نائب منقی بریاست پیغمبر و ریاست علماء :-

”اس صورت میں عرف کا اعتبار کیا جائے ؟ کار حوالہ دہی مختصر و قایہ کا ہے، اگر عرف یہ ہے کہ ایک صورت ایسے غیر ممکن ہے کہ صرف شوہر کی دفاتر یا ملائقہ کے بعد حاصل کر سکتی ہے تو وہ شوہر کی دفاتر یا ملائقے سے پہلے اسے دصوں کرنے کا حق نہیں رکھتی ۔“

اس اختلاف کا حل کیا ہے ؟ براہ کرم آپ اس پر تفصیل سے روشنی
ڈالیں۔

جواب :-

قرآن و حدیث کی رو سے مہر دا حاصل اس حق زوجیت کا معادضہ ہے جو ایک مرد کو اپنی بیوی پر حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے :-
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا قَدَّمَ ذَاكُرُهُ أَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ
روالنسار (۲۳)

ان کے مساواجی عورتیں ہیں، تمہارے لیے حلال کیا گیا کہ اپنے ماں
کے عوض ان سے طلب نکال کر دو۔

فَمَا اسْتَعْتَمْتُ مِنْهُ فَإِنَّهُ حُنْ أَجُوزَ حُنْ فِرْلَيْضَةَ
روالنسار (۲۳)

پس جو لطف تم نے ان سے اٹھایا ہے اس کے ان کے پر بطور ایک
فرض کے ادا کرو۔

وَكَيْفَ مَا خُذُوفَةٌ وَقُدْ أَفْضَى بِعُضُوكَ إِلَى الْغَيْضِ۔ (الناسار ۳۷)

اہتمادہ والی کیسے لے سکتے ہو جب کہ تم میں سے ایک دوسرے سے
اختلاط کر کے چکا ہے۔

ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر یہ وہ چیز ہے جس کے عوض مرد
کو عورت پر شوہران حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اس کی مزید تعریج دہ احادیث کی
میں جو اس معنی میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہیں۔ صحاح سنتہ احمد رامی اور سنید
احمد میں حضور کا یہ ارشاد منقول ہے:-

أَحْقَ الشَّرْطَانَ تَوْفِيقَهُ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الْفَرْدَاجُ۔

تم شرطوں سے بڑھ کر خوش رہ اس کی مستحق ہے کہ تم اسے پورا کر دوہ شرط دوہ
ہے جس پر تم عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو،۔

یعنی کارہ مشہور مقدمة، جس میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے درمیان
تفرقی کرائی تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے عبد اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب
تفرقی ہو چکی تو شوہر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مال بھے والپس دلوایا جائے۔ آپ
نے جواب میں فرمایا:-

لَا مَا لَكَ اَنْ كُنْتْ صَدِقَتْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلتَ
مِنْ فَرْجِهَا وَانْ كُنْتْ كَذَّبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ الْبَعْدُ لَكَ مِنْهَا
وَسَلَمَ۔ (کتاب النعان ۲)

مال یعنی کا بھے کو لی حق نہیں ہے۔ اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا ہے
تو اس کی شرمگاہ جو تو نے اپنے یہی حلال کی تھی اس کے معاویہ میں وہ مال

ادا ہو چکا، اور اگر تو نے اس پر جبڑا الزام لگایا ہے تو مال لینے کا حق تھے سے
اور بھی زیادہ ددد ہو گی۔ (مسلم۔ کتاب الفعلان)

اس سے بھی زیادہ تصریح ایک احمد حدیث میں ہے جو امام احمد اپنی مندرجہ میں
لائے ہیں کہ:-

من تزوج امرأة بصدق ونوى ان لا يوديه فهو زان۔

جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ یہ ہر دنیا نہیں ہے وہ
نہیں ہے۔

ان تمام نصوص سے ہر کی یہ حیثیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی سی
دنیا کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہے جس کے مقابلہ میں ایک عورت ایک مرد کے
یہے حلال ہوتی ہے۔ اور ان نصوص کا اقتضاء یہ ہے کہ استھان فرج کے ساتھ ہی
پورا ہر فرد ادا رہ جائے۔ الایہ کہ زوجین کے درمیان اس کو مذخر
کر دینے کے لیے کوئی قرارداد ہو جگہ ہو۔

پس زر ہر کی ادائیگی میں اصل تعییل ہے ذکر تاجیل۔ ہر کا حق یہ ہے کہ وہ استھان
فرج کے ساتھ بر دقت ادا ہو، اور یہ بعض ایک رہایت ہے کہ اس کو ادا کرنے میں
مہلت دی جائے۔ اگر مہلت کے بارعے میں زوجین کے درمیان کوئی قرارداد نہ
ہوئی ہو تو انتہا اصل (یعنی تعییل) کا کیا جائے (کہ رہایت (یعنی تاجیل اور مہلت)
کا۔ یہ بات شارع کے فتاویٰ کے بالکل خلاف معلوم ہوتی ہے کہ تاجیل کو اصل قرار
دیا جائے اور تاجیل و تعییل کے غیر مطروح ہونے کی صورت میں زر ہر کو آپ سے
آپ موجہ شیرا یا جائے۔

فِقْهَارِ خَفْيَةٍ كَمَا مِنْ أَسْكُنَلَهُ مِنْ دُرْكَرَدَهُ بَارِئَ جَانَتِهِ مِنْ - اِنْ يَكُونَ
كَمَارِيَ دِيَهُ بَهُ جَوْهِمَ نَفَرَ بَيَانَ كَمِ - خَاتِمَهُ الْبَيَانَ مِنْ سَبَهُ :-

فَإِنْ كَانَ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ أَوْ مَسْكُوتَأَعْنَهُ يَجِبُ حَالًا وَلَهَا
أَنْ تَحْنَمْ نَفْسَهَا حَتَّى يَعْلَمَهَا الْمَهْرُ -

اِنْ مِهْرَ شَهْرَ طِلْبَتِ تَعْجِيلٍ بُوْيَا اِسْمَكَ كَمَارِيَ بَارِئَ مِنْ سَكُوتِ اِخْتِيَارِ كَيْيَا يَاهُ (كَمِ عَجَلَ
بَهُ يَا مَرْجِلَ) تَوْهَ فَوْرَأَ وَاجِبٌ بُوْكَا اِنْدَ عُورَتَ كَوْتَيْهُ بُوْكَا كَرَلَيْهُ آپَ كَمَ
شَوْهَرَ سَهَرَ رَوْكَ لَيْهُ جَبَ تَكَدَهُ مِهْرَ اِداَزَ كَرَيَهُ -

اَوْ رَشْرَحَ الْفَنَاءِ عَلَى الْهَدَىِيَهِ مِنْ سَبَهُ :-

فَإِنْ سَمِوَ الْمَهْرَ سَاكِتَيْنِ عَنِ التَّعْجِيلِ وَالتَّاجِيلِ مَا ذَا يَكُونُ
حَكْمَهُ ؟ قَدْلَتْ يَجِبُ حَالًا فَيَكُونُ حَكْمَهُ حَكْمَ مَا شَرَطَ تَعْجِيلَهُ -

بَعْدَ اِنْ مِهْرَ مَقْرَرَ كَرَدَيْيَا اَوْ مَعْلُلَ يَا مَرْجِلَ كَمَارِيَ بَارِئَ مِنْ سَكُوتِ اِخْتِيَارِ كَيْيَا يَيِّي
تَوَاسُكَا كَيْيَا حَكْمَهُ ؟ مِنْ كَهْتَهُ بُوْنَ كَرَدَهُ فَوْرَأَ وَاجِبٌ بُوْكَا، اِسْكَاحُ اِسْمَ
مِهْرَ كَمَا حَكْمَهُ بَهُ جَسَ كَمَ كَيْيَا تَعْجِيلَ كَشْرَطَ كَيْيَا كَنَيِّي بَهُ -
اَوْ رَسْبِيَابِيَ مِنْ سَبَهُ :-

اَنْ كَانَ الْمَهْرَ مَعْجَلاً أَوْ مَسْكُوتَأَعْنَهُ فَانَهُ يَجِبُ حَالًا لَوْنَ النَّكَاجَ
عَقْدَ مَعَاوَضَةٍ وَقَدْ تَعْيَنَ حَقَهُ فِي الزَّوْجَةِ فَوَجِبَ اَنْ يَتَعْيَنَ
حَقَهَا وَذَلِكَ بِالْتَّسْلِيمِ -

اَنْ مِهْرَ مَعْلُلَ بُوْيَا اِسْمَكَ كَمَارِيَ بَارِئَ مِنْ سَكُوتِ اِخْتِيَارِ كَيْيَا يَيِّي
بُوْكَا كَيْوَنَكَهُ نَكَاجَ اِيكَ عَقْدَ بِمَعَاوَضَهِ هُبَهُ، جَبَ زَوْجِيَهُ بُوْهَرَ كَاتِنَ تَعْيَنَ

چوگی تو راجب آیا کہ حورت کا حق بھی تعین ہو جائے اور وہ اسی طرح ہو
سکتے ہے کہ ہر اونچہ دریا جائے ۔

مودودی میر اگر وہ تو روکھتا ہے کہ اس معاملہ میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا
فہادی قاضی خالد ہیں ہے ۔

فَعِنْ لِعْنِيْتِنَا قِدْرُ الْعِجْلِ يَنْظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ دَالِي الْمَهْرَ اَمْ
كَمْ يَكُونُ الْعِجْلُ شَلْ حَذْدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ شَلْ حَذْدَ الْمَهْرِ
فَيَعْجِلُ ذَلِكَ وَلَا يَقْدِرُ بِالرَّأْيِ وَالْخَمْسَ مِيلَ يُعْتَبَرُ
لِلتَّعَادُتِ ۔

محض جملی مقدار واضح نہ کی گئی ہو تو رجوع کیا جائے تھا کہ فورت کس طبقہ کی
ہے اور ہر کتنی ہے لعنتی کہ اسی حورت کے لیے ایسے ہر میں سے کس
قدر عجل فردا جائے ۔ بس اتنا ہی مقدار عجل قرار دی جائے ایک چوتھائی
ڈپانچوں حصہ کی تعین نہ کر رینی چاہیے ہمدردانچ ہو اس کا اعتبار کرنا
چاہیے ۔

إِنَّمَا لَئِنْ كَيْ تَأْيِدَ عَلَامَهُ أَبْنَ حَامِنَ فَقَعَ الْقَدِيرُ مِنْ كَيْ ہے وَدَعَكَتْنَهُ مِنْ
وَانْ لِعْنِيْتِنَا قِدْرُ عِجْلِ شَيْئٍ بَلْ سَكَتْنَا عَنْ تَاجِيلِهِ وَتَعْجِيلِهِ
فَنَّ كَانَ عَرْفٌ فِي تَعْجِيلِ بَعْضِهِ وَتَأْخِيرِ باقِيهِ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ
الْيَوْمَ أَوِ الْهَلْوَقِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَعْتَبِسَ إِلَّا إِلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ
الْقَدِيرِ ۔

مودودی کسی حصہ ہر کی تعییں کی شرط نہ کی گئی ہو بلکہ تعییں اور تاجیل کے باہم

میں سکوت اختیار کیا گی ہو تو رواج کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ رواج ہے کہ ایک حصہ مجمل قرار دیا جائے ہے اور باقی حصہ موت تک یا خوشحالی یا اخلاقی تک موثر رکھا جاتا ہے تو عورت صرف اتنی ہی مقدار دصول ہونے تک اپنے آپ کو شوہر سے رد کئے کا حق رکھتی ہے۔

اصول حیثیت سے دیکھا جائے تو پہلے گروہ کی راستے قرآن و حدیث کے فتاویٰ سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ لیکن درستے گروہ کی راستے بھی بے دن نہیں ہے۔ ان کے قول کا مدعایا پڑھنے ہیں ہے کہ ہر کے باب میں تاجیل اصل ہے اور جب تاجیل و تعبیل کی صراحت نہ ہو تو معاملہ اصل یعنی تاجیل کی طرف راجح ہونا چاہیے۔ بلکہ وہ اپنے فتوے میں ایک اور قاعدے کا لحاظ کرتے ہیں جسے شرعیت میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں معاملات کے متعلق جو طریقہ عام طور پر مردیج ہو اس کی حیثیت افراد کے درمیان ایک ہے لیکن معابرے کی سی ہوتی ہے، اگر اس سوسائٹی کے دو فرقی باہم کوئی معاملہ طے کریں اور کسی خاص پہلو کے باہرے میں بصراحت کوئی قرار داد نہ کریں تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس پہلو میں وہ مردیجہ طریقہ پر راضی ہیں۔

بلاشبہ یہ قاعدہ شرعیت میں ستم ہے، اور اس لحاظ سے فتحہاں کے درستے گروہ کی راستے بھی غلط نہیں ہے۔ نیکن قبل اس کے آدم کسی خاص سوسائٹی میں اس قاعدے کو جاری کریں، ہمیں یہ سمجھ دینا چاہیے کہ شرعیت نے اس طور اک مأخذ قانون (Source of Law) کے تسلیم نہیں کیا ہے کہ جو پھر دن ہو وہی شرعیت کے نزدیک حق ہو، بلکہ اس کے بر عکس وہ غیر منطقی سوسائٹی اور

اس کے بغیر متعفانہ روایوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کو بدلنا چاہتی ہے اور صرف ان روایوں کو تسلیم کرتی ہے جو ایک اصلاح شدہ سوسائٹی میں شرعیت کی روح اور اس کے اصولوں کے تھت پیدا ہوئے ہوں۔ لہذا دراج کو بے لکھ معابرہ مان کر مثل قانون نافذ کرنے کے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس سوسائٹی کے نواح کو ہم یہ حیثیت دے رہے ہیں کیا وہ ایک متقی سوسائٹی ہے؟ اور کیا اس کے روایج شرعیت کی روح اور اس کے اصولوں کی پیرودی میں پیدا ہوئے ہیں؟ اور تحقیق سے اس کا جواب نفی میں ملے تو اس قاعدے کو مثل قانون جاری کرنا عدل نہیں بلکہ قطعاً ایک ظلم ہو گا۔

اس نقطہ نظر سے جب ہم اپنے ملک کی موجودہ مسلم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ تعلقاتِ مردوں کے معاملہ میں اس نے خواہشاتِ نفس کی پیرودی اختیار کر کے اس قوانین کو بہت کچھ بگاڑ دیا ہے جو شرعیت نے قائم کیا تھا، اور بالعموم اس کامیلان ایسے طریقوں کی طرف ہے جو شرعیت کی روح اور اس کے احکام سے مرجح منحر ہیں۔ اسی مہر کے معاملہ کو لے لیجئے جس پر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس ملک کے مسلمان بالعموم مہر کو محض ایک سی پیز سمجھتے ہیں۔ ان کی بگاہ میں اس کی دو اہمیت، قطعاً نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں اس کو دی گئی ہے۔ نکاح کے وقت بالکل ایک نمائشی طور پر مہر کی قدر دا ہو جاتی ہے مگر اس امر کا کوئی تصویز دہنوں میں نہیں ہوتا کہ اس قرار دار کو پورا بھی کرنا ہے۔ بارہا ہم نے مہر کی بات چیت میں اپنے کافوں سے یہ الفاظ سنئے ہیں کہ ”میان کو ان لیتی ہے کون دیتا ہے“ گویا یہ فعل ضالعہ کی خانہ پُرسی کے لیے

کیا جا رہا ہے۔ ہمارے علم میں، فیصلہ نماج ایسے ہوتے ہیں جن میں مہر سے
سے کبھی ادا ہی نہیں کیا جاتا۔ زر مہر کی مقدار مقرر کرنے میں اکثر جو چیز لوگوں کے
پیش نظر ہوتی ہے وہ صرف یہ کہ اسے ملائق کی روک تھام کا ذریعہ بنایا جائے۔
اس طرح عملاً عورتوں کے ایک شرعی حق کو کا عدم کر دیا گیا ہے اور اس بات کی کوئی
پرواہیں کی گئی کہ جس شریعت کی روئے یہ لوگ عورتوں کو مردی پر حلال کرتے
ہیں وہ مہر کو استحلال فوج کا معاوضہ قرار دتی ہے اور اگر معاوضہ ادا کرنے کی
بیت نہ ہو تو خدا کے نزدیک عورت مرد پر حلال ہی نہیں ہوتی۔

ہمارے یہی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ جس سوسائٹی کا عرف اتنی بجا طبق ہوا اور
جس کے روایج نے شریعت کے احکام اور اس کی روح کے بالکل خلاف موتی
اختیار کر لی ہوں، اس کے عرف و روایج کو از روئے شریعت جائز قرار دینا
کس طرح ہو سکتا ہے۔ جن فقہار کی عبارتیں اختیار عرف کی تائید میں نقل کی جاتی
ہیں، ان کے پیش نظر یہ بگڑی ہوئی سوسائٹی تھی اور نہ اس کے خلاف شریعت
روایج۔ انہوں نے جو کچھ لکھا تھا وہ ایک اصلاح شدہ سوسائٹی اور ان کے عرف
کو پیش نظر کر لکھا تھا۔ کوئی منفی مجرم ان کی عبارتیں کو نقل کر کے اپنی ذمہ داری
کے سبک دش نہیں ہو سکتا۔ اس کا فرض ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے اصول شریعت
کی روشنی میں ان کی عبارتیں کو اچھی طرح سمجھے لو دیے تحقیق کر دے کہ جن حالات
میں انہوں نے وہ عبارتیں لکھی تھیں ان سے وہ حالات مختلف تو نہیں ہیں جن پر
آج چپاں کیا جا رہا ہے۔

ترجمان القرآن۔ رجب۔ شعبان ۱۴۲۷ھ، جولائی۔ الحست

غیر محروم قریبی اعزہ سے پردہ کی صورت

سوال:-

کیا شوہر جوی کو کسی لیے رشتہ دار یا عزیز کے سامنے بے پردہ آنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے جو شرعاً جوی کے لیے غیر محروم ہو؟ میری کہ سُرال اور میکے کے ایسے غیر محروم قریبی رشتہ دار جن سے ہمارے آج کل کے نظام معاشرت میں بالعموم عورتیں پردہ نہیں کرتیں، ان سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر کرنا چاہیے تو کتنی حدود کے ساتھ؟

جواب:-

شوہر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا اور رسول کے احکام کی خلاف دردزی کا بیوی کو حکم دے۔ اور اگر وہ ایسا حکم دے تو ایک مسلمان عورت کا فرض ہے کہ اس کی احتیاجت سے انکار کر دے۔ سورہ نور کے ذکر و ۲ میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کی فہرست دے دی ہے جن کے سامنے ایک مسلمان عورت اپنی زینت کے ساتھ آسکتی ہے۔ ان کے سوا کسی کے سامنے اظہار زینت کا حکم دینا کسی مسلمان کے راستہ اختیار سے باہر ہے۔

سُرال اور میکے میں عورتوں کا عموماً جن غیر محروم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رہن ہیں ہوتا ہے ان سے پردے کی نوعیت وہ نہیں ہے جو بالکل غیر مردہ سے پردہ کی نوعیت ہے۔ عورتیں اپنے غیر محروم رشتہ داروں کے سامنے بغیر زینت، کے سارے لباس میں پورے ستر کے ساتھ آسکتی ہیں، مگر حرف اس حد

تک ان کے سامنے رہنا چاہیے جس حد تک معاشرتی حریصیات کے لفظتے ناگزیر ہو۔ یہ خلا ملا اور بے تکلفی اور ایک مجلس میں بیٹھ کر غیری ملائیں کرنا احمد شہان میں بیٹھا، جس کا روایج ہماری موجودہ سوسائٹی میں بڑی بحث کے ساتھ پایا جاتا ہے، شرعی احکام کے قطعی خلاف ہے، اور بعض رشتہ داروں مثودیوں کے ساتھ ایسے تعلقات کی تو حد بیش میں صریح ممانعت موجود ہے۔

اس معاملہ میں فی الواقع ہماری معاشرت میں بڑی بحث کی پیٹا ہو گئی ہے۔ شرعیت کا جو حکم ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ مگر مسلمانوں میں مطہج سے جو فر شرعی حالات پیدا ہو گئے ہیں ان کو درکرنے کے لیے بڑی بحثات اور حرم کی خردت ہے۔ ایک طرف بحثت مسلمان غیر دین سے اتنے پرے کا اعتماد کرتے ہیں جو شرعیت کے مقابلہات سے بڑھ جاتے ہے۔ در عورانی پی لوگ رشتہ داروں کے مقابلہ میں تمام حدود شرعیہ توثیک کر رکھ دیتے ہیں۔ اس معاملہ میں مگر کوئی شخص احکام شرعیت پڑھیک نہیں کیا ہے اور شاید بہت سے خالق تعلقات کو توثیک کر سکتا۔

در ترجمان القرآن، رجب، شعبان شمسہ - جولائی، المیت شمسہ

پرده کے متعلق چند عملی سوالات

سوال :-

آپ کی کتاب "پرده" کے مقابلے کے بعد میں نے احمدیہ ایونی

چند ہجتوں سے عالی زندگی کو قوانین الہی کے مطابق بدلنے کی سی شروع
کرد کھی ہے۔ مگر ہمارے اس ہدایہ روایتی کی وجہ سے پورا خاندان ہائپرس
ہدایے والوں نہست برہم ہیں اور پرده کو شرعی حدود و حضو الباط کے ساتھ
اختیار کرنے پر بہافروختہ ہیں۔ حال ہوتا ہے کہ کہیں ہم ہی بعض مسائل میں
غسلی پر نہ ہوں۔ پس نسل کے لیے حسب ذیل امور کی وضاحت چاہتے ہیں:-

(۱) سحد کا احراب کی یہ آیت کہ "عورتوں پر کچھ گناہ نہیں کہ دہ اپنے
بیویوں کے سامنے پر دہ نہ کریں اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے ... اخ" ۲
اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آیت میں جن ایڑو کا ذکر ہے ان کے
حوالوں کا کسی دوسرے کے سامنے کسی بھی شکل اور حالت میں آنا
(لائق پاشد بیوری) ہر گناہ ہے۔ اس معاملہ میں غیر محروم رشته دار اور غیر
محروم جانب بالکل رابہ ہیں۔ کیا سیر ایجاد ہیج ہے؟

(۲) کیا غیر محروم اعزہ (مشق چاڑا زار بھائی یا خالو جب خالہ زندہ ہوں)
کے سامنے ہونا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن موقع کے لیے اور کن طریقے
کے ساتھ جائز ہے؟

(۳) اگر کسی غیر محروم رشته دار کے ساتھ ایک ہی مکان میں بیوی زار نہیں ہو
یکوئی غیر محروم عزیز بیوی ہے تو ایسی حالت میں پرده کس طرح کیا جا
سکے؟ اسی طرح کسی قریبی عزیز کے ہان جانے پر اگر زنانے سے بلا ا
کسے تو کی صورت اختیار کی جائے؟

(۴) اگر بھروس میں جو ان عزم کا حج کے لیے آئیں جائیں تو سن رسیدہ عورتوں

عورتوں کے لیے توجہ خصوصیت ہے وہ مجھے علوم ہے مگر جو ان عورتوں کیا
صرف ہے کہ اس کے ساتھ ہے پر وہ ہو سکتی ہیں کہ ہماری نیت پاک ہے؟
(۵) الگ خط رسول کے احکام کے تحت پر وہ اختیار کرنے میں کسی
کی والدہ آحادیل چوتواں کے حکم کو رد کیا جاسکتا ہے یا نہیں، جبکہ آپ
کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔

(۶) کیا عورتوں کو مسود اور عورتوں کے مشترک جلسوں میں تعاب
افڑو کر تقریر کرنی چاہئے؟ حدیث کی ہدیت سے تو عورتوں کی آواز کا غیر
مردم مردوں تک پہنچنا پسندیدہ نہیں معلوم ہوتا۔

(۷) کیا عورتوں پر بڑی ڈاکٹری ڈائریس یا معلقہ بن سکتی ہیں؟ جیسا کہ ہماری
قوم کے شے بڑے بیٹوں نے قوم کو اپیل کرتے ہوئے کہ پہنچے کہ
ہماری عورتوں سب کاموں میں حصہ لے کر گذشتہ نقصانات اور پماندگی کی
خالی کریں۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورتوں کیا ان مشاغل کو اختیار کر سکتی ہیں
اور آیا انہیں پردہ میں رہ کر ہی انہم دینا ہو گا یا اضطردہ پردہ سے باہر
بھی آسکتی ہیں؟

(۸) کیا عورتوں چھرو کھول کر یا تعاب کے ساتھ جہاد میں شرکت کر
سکتی ہیں؟

جواب:-

(۹) آپ نے قرآن مجید کے اصل الفاظ پر عورتوں کیا۔ وہ آیت جس
کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، سورہ احزاب میں نہیں بلکہ سورہ گُفران میں ہے

اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ "رَلَّا يُبَدِّلُنَّ ذِيَّتَهُنَّ إِلَّا...،" یعنی بجز ان لوگوں کے اور کسی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ دوسرے مقولوں میں گھر سے پاہر بناوٹ شکار اور آرالش کے ساتھ غیر حرم لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔ دوسری طرف گھر سے ہاہر نکلنے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ "يُذْمِينُ عَيْنَيْهِنَّ مِنْ جَلَّا يُبَدِّلُهُنَّ...،" یعنی اپنی چاہدوں کو لپنے اور گھوٹ گھٹ کے طور پر لڑکا لیا کریں۔ ان دونوں آیتوں پر خود کرنے سے مسلم ہوتا ہے کہ مردوں کی تین قسمیں ہیں اور ہر قسم کے لیے الگ احکام ہیں۔ ایک وہ حرم رشتہ دار وغیرہ جن کا ذکر صدھہ فور و الی آیت میں آیا ہے۔ دوسرا ہاںکل اجنبی لوگ جن کا حکم صدھہ احزاب والی آیت میں بیان ہوا ہے۔ تمیرے ان دونوں کے درمیان ایسے لوگ جن کا حکم نہیں ہیں اور اجنبی بھی نہیں۔ پہلی قسم کے مردوں کے سامنے صورت اپنے بناوٹ شکار کے ساتھ آسکتی ہے۔ دوسری قسم کے مردوں کو چہرہ تک نہیں دکھ سکتی۔ رہے تمیری قسم کے لوگ تو ان سے پر دے کی فو عیت نہ کوڑہ ہا لار و فول محدثوں کے درمیان رہے گی۔ یعنی نہ تو ان سے ہاںکل اجنبیوں کا ساپسہ ہو گا اور نہ ان کے سامنے زینت کا اظہار ہی کیا جائے گا۔

(۲) سامنے ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح کی آزادی اور بناوٹ شکار کے ساتھ سامنے ہونا جیسے ہاپ بھائی وغیرہ کے سامنے ہوا جاتا ہے، اور بے تکلف بیٹھ کر بات چیت کرنا، ہنسنا، بولنا، حتیٰ کہ تہباں سکن میں ساتھ رہنا۔ یہ چیز کسی قسم کے غیر حرم مردوں کے ساتھ بھی ہائز نہیں ہے، خواہ وہ اجنبی ہوں یا رشتہ دار۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ

حورت اپنی زینت کو چادر وغیرہ سے چھپا کر نیز سر کو ڈھانک کر صرف چہرہ اور ہاتھ کھو رہے ہوئے کسی کے سامنے آئے، اور وہ بھی اپنے آپ کو دکھانے کی غرض سے نہیں بلکہ ان ناگزیر مزدوں کو پورا کرنے کی غرض سے جو مشترک خاندانی معاشرت میں پیش آتی ہیں۔ مگر آزادی کے ساتھ بیٹھ کر خلاطانہ کرے۔ خلوت میں بھی اس کے ساتھ رہ رہے، اور صرف اس طرح سامنے ہو کہ مثلاً اس کے سامنے سے گذر جائے یا کوئی ضروری بات ہو تو پوچھ لے یا بتاوے۔ اس حد تک غیر محروم اعزہ کے سامنے ہونے کی شرعاً اجازت ہے یا کم از کم ممانعت نہیں ہے۔ بہر حال چاپ زار بھائیوں اور خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ جو سنہی مذاق اور انتہائی تسلیفی آج سماںوں کے گھر دیں میں راجح ہے اور جس طرح مسلمان رٹ کیاں اس قسم کے عزیزوں کے سامنے بخی شخصی رہتی ہیں، اُنہیں اُنہیں اسلامیہ میں ان بے اعتدالیوں نے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔

(۲) ایسے حالات میں اگر شرعیت کی پابندی کا ارادہ مزدوں طرف موجود ہو تو صحیح را و ملیب ہے کہ جب کوئی غیر محروم عزیز گھر میں آئے تو شرعی قادرہ کے مطابق استیزان (طلب اجازت) کرتے۔ پھر جب ایسی آزاد آئے تو حورت کو

لہ افسوس ہے کہ قرآن و سنت کے حکم استیزان کو آج سماںوں نے اپنی معاشرت سے بالکل ہی خارج کر دیا ہے اور اجازت مانعے بغیر گھر میں گھس آئے کوئے تسلیفی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ شرعاً خود گھر کے مردوں، حتیٰ کہ باپوں بیویوں اور بھائیوں کو بھی لازم ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہونے میں تو کم از کم کعنکار دیں یا کوئی ایسی آواز (باقیہ صفحہ ۲۴ پ)

چاہیے کہ کوئی چیز ادھر کر انہی زینت کو چھپائے اور فردا پہاڑ خ بدل لے اور پیشہ موڑ لے۔ الگ بالکل ناگزیر ہو تو چہرہ اور ہاتھ غیر محروم عزیز کے سامنے ظاہر ہونے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعد درست سادگی کے ساتھ بات کر رہنے میں بھی کوئی خرچ نہیں ہے۔ البتہ خلاطہ اور بے تکلفی اور سہی مذاق بالکل ناجائز ہے۔

(۴) ملازموں کے معاملہ میں میری تحقیق یہ ہے کہ جن ملازموں کے متعلق صاحب خانہ کی رائے یہ ہو کہ وہ "غیر اولی الاربیة" کی تعریف میں آتے ہیں (یعنی اپنے آقا کے گھر کی عورتوں کے متعلق کوئی براخیال ان کے دل میں آنے کی توقع نہیں ہے، ان کو گھر میں آنے جانے اور کام کرنے کی امداد دی جاسکتی ہے۔ لیکن جن ملازموں کے متعلق صاحب خانہ کی یہ رائے نہ ہو، ان کا گھر دل میں آنا جانا جائز نہیں ہے۔ ہر حال اس معاملہ میں گھر کے قوام کا اجتہاد معتبر ہے، لیکن شریکہ وہ شریعت کے پابندی کا ارادہ رکھتا ہو، نہ کہ حدود شریعت کو بے پرواں کے ساتھ ٹالنے والا ہو۔

(۵) ماں کے پاؤں کے نیچے جبنت بے شک ہے، لیکن حکم حرف اُسی ماں کا آنا جاسکتا ہے جو جنتیوں کے سے کام کرے، یعنی خدا در رسول کے احکام کے آگے جکنے والی ہو اور اپنے نفس یا خانہ میں رواجوں پر شریعت کو قربان کر دینے والی نہ ہو۔ رسمی ارادہ ماں جو اس کے بر عکس صفات رکھتی ہو تو اس کی

کوئی جس سے گھر کی عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی مرد آرہا ہے۔

خدمت تو کی جاتی رہے گی، مگر خیر شرعی امور میں اس کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ شریعت کی پابندی سے آزاد ہو کر اور اپنے نفس یا بدادری کی شرعیت کو خدا کی شرعیت پر ترجیح دے کر تو اس نے اپنا قدم خود جہنم کی طرف ڈال دیا۔ پھر آخراں کے پاؤں کے نیچے جنت کیسے ہو سکتی ہے۔

(۴) بعض حالات میں یہ چیز جائز ہے کہ حورت پر درے کی پوری پابندی کے ساتھ مردوں کو خطاب کرے، لیکن ہالعوم یہ جائز نہیں ہے۔ اس امر کا فیصلہ کرنے کے کم حالات میں یہ چیز جائز ہے اور کتنے میں جائز نہیں، صرف ایسے شخص یا اشخاص کا کام ہے جو مواقع اور حالات کو شرعی نقطہ نظر سے سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں اور شرعیت کے مشاور کے مطابق زندگی بسرا کرنے کی نیت بھی ان میں پائی جاتی ہو۔

(۵) یہدر صاحب اجنب کا حوالہ درے کر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مقصود حوار ہو یہ ہے کہ اگر اسلامی تہذیب اسی چیز کا نام ہے جس کی پروردی یہ حضرات خود اور ان کے اتباع میں مسلمان آج کل کر رہے ہیں تو چھر اسلامی تہذیب اور یورپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر تو مسلمانوں کو وہ سب کچھ کرنا چاہیئے جو آج کل یورپ میں ہو رہا ہے لیکن اگر اسلامی تہذیب اسی تہذیب کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھاں سمجھی تو آج کل کے میڈیل کالجوں اور نرنسنگ کی تربیت گاہوں اور سپیتاں میں مسلمان رٹکیوں کو سمجھنے سے لاکھ دفعہ بچتری ہے کہ ان کو قبروں میں دفن کر دیا جائے۔ راتی وقت گرلنے کا الجوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے اور پھر معلمات پہنچنے کا معاملہ بھی اس سے کچھ بہت مختلف نہیں۔

ہے۔ البتہ اگر فنکار میں تعلیم و تربیت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو اور ہم اپنے طریقہ پر لڑکیوں کو تیار کر کے ان سے تمدن کے ضروری کاموں کی خدمت لینے پر قادر ہوں تو یقیناً ہم اس کا انتظام کریں گے کہ اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے لڑکیوں کو فن طب، سرجوی، قابلہ گری، زرستنگ اور تربیت اطفال کی تعلیم دیں اہم کو دوسرا علوم و فنون کی اصلی تعلیم و تربیت دے کر معلمات بھی بنائیں اور ان سے تمدن کی دوسری مختلف ضروری خدمات بھی ایسے طریقوں پر لیں جو اسلامی تہذیب کے مطابق ہوں۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی ضمناً لاائق تصریح ہے کہ ہم مسلمان اس مغربی نظریہ کے قائل نہیں ہیں کہ تجارت داری رمزستنگ اکاپشیرہ عوت کے لیے خصوص ہے اور یہ کہ زنانہ مردانہ سب قسم کے ہسپتاول میں نرسر عوت ہی ہونی چاہیئے۔ ہمارے نزدیک اس خیال کے لیے کوئی علمی اور عقلی بیاناد نہیں ہے، اور اخلاقی حیثیت سے یہ نہایت شرمناک ہے کہ نرسر خواتین سے مرد بیماروں کی تجارت داری کے دہ کام لیے جائیں جبکہ مرد تجارت دار بھی انجام دیتے ہوئے جا بھوس کریں۔ اس بناء پر ہم مسلمان لوگ اگر عورتوں کو بھی خدمات کے لیے تیار کریں گے تو عورتوں کے علاج اور تجارت داری کے لیے کریں گے نہ کہ عام بھی خدمات کے لیے۔ ہمارے نزدیک مردانہ ہسپتاول کے لیے مردی نرسر ہونے چاہیں۔

(۸) جنگ کے موقع پر تجارت داری، مرہم ٹپی، مجاهدوں کا کھانا پکانا، اسلحہ اور رسدرسانی، پیغام رسانی وغیرہ کی خدمات انجام دینا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ پر دیے کے احکام سے قبل بھی یہ خدمات عورتوں میں انجام دیتی تھیں اور ان احکام کے آنسے کے بعد بھی دیتی رہیں اور آج بھی دے سکتی ہیں۔ لیکن یہ

جو از اس شرط سے بہت ہے کہ فوجِ اسلامی ہو، حدودِ اللہ کی پابندی ہو اور ان بدمعاں سے پاک ہجت میں آج کل کی فوجوں نے نامہ دی حاصل کر رکھی ہے (۷۰۔۸۔۵۔۱) جیسے مقصوم نامول سے عورتوں کو بھرتی کرنا اور پھر بدمعاش پاہیوں اور افسروں کے لیے ان سے قبیرگری کی خدمت لینا وہ شیطانی کام ہے جس کے لیے کوئی بخوبی شرعاً نام بھی اسلامی تبدیل میں نہیں نکل سکتی ہے۔

(ترجمان القرآن - رمضان ۱۹۵۲ء۔ گست ۳۹)

رسموں کی شرعیت

سوال ۱۔

چند اشکال پیش ہیں۔ ان کے متعلق شرعی رہنمائی چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے امینان کے لیے حسب فیل احمد پر دشمنی ٹوٹا گی۔

۱۔ آج کل کی فوجوں کی اخلاقی حالت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ گذشتہ جگہ غنیم کے سرحد میں اربی فوج نے جاپان میں ایک لاکھ اگستاں میں، ہزار اور چھوٹی میں ۵۰ ہزار حرامی بچپے چھوڑے ہیں۔ اور روسی فوج نے صرف مشرقی برلن میں ۲۹، ہزار حرامی اور لاڈپیرا کی ہے۔ یہ صرف ان بچوں کی تعداد ہے جو ۱۹۵۲ء سے آخر تک شہر میں آگئے ہیں۔ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس پر تھوکنڈوں کے دور میں کتنے بیٹے پایا نہ ہو بد کاری کی گئی ہوگی تب جاکر یہ شایعہ بڑھوڑھو میں آئے۔

۱۔ ایک مغل مسلمان اپنے بیٹے ناجیتی کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں کے
باوجود دنیا والوں کا ساتھ دینے کا بھی خواہ نہ ہے، لیکن شادی فرمازک
و احتشام سے کر کے وقتی مسی مرتضی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی
رنگانی کیسے کی جائے؟

۲۔ ایک متقدہ مسلمان جو تمام آثار پنج کر بھی قرض ادا کرنے کی
استعداد نہیں رکھتا، بیٹے، بیٹیوں کی شادی کرنا چاہے تو فرقی شان کی
طرف سے ایسی شرط مسلسلے آتی ہیں جو ہر حال صرف کثیر چاہتی ہیں تو
اس کے لیے کیا راہ عمل ہے؟

۳۔ عوراءڑکیوں کی شادی کے معاملہ میں اس کا انتظار کیا جاتا ہے
کہ دوسری طرف سے نسبت کے پیغام میں پہل ہو، چنانچہ اسی انتظار
میں بعض اوقات رٹکیاں جوان کو ملے کر کے بڑھاپے کی مرحد میں داخل
ہوتی ہیں اور کنواری رہ جاتی ہیں۔ اس معاملہ میں اسلام کیا چاہتا ہے؟

۴۔ مسحورہ مسلمان شادی بیاہ، پیدائش اور موت کی تقریبات پر حصہ،
چڑہ، بآجہ، منگنی، جنیز اور اسی طرح چالیسوں، قل و خیرہ کی جھوٹ سوم انجام دیتے
ہیں ان کی حیثیت شرعیت میں کیا ہے؟

جواب:-

۵۔ ایسا شخص جو خود را جانتا ہے کہ وہ اتنا فرج کرنے کے قابل نہیں ہے،
اوہ پھر محض دنیا کے دکھا دے اور اپنی غلط خواہیات کی تسلیکن کی خاطر اپنی چادر
سے زیادہ پاؤں پھیلانا چاہتا ہے وہ تو جان لو جو کہ اپنے آپ کو مدعیت کرے

گرہے میں پھیک رہا ہے۔ اپنی غلط خواہش کی وجہ سے یا تو وہ سوری قرض لے گا یا کسی مہمود کی جیب پر ڈاکہ ڈالے گا، اور اگر اسے قرضِ حسن مل گیا جس کی امید نہیں ہے، تو اسے مار کھا رہے گا۔ اور اس سلسلہ میں خدا جانے کتنے جھوٹ اور کتنی بے ایمانیاں اس سے سرزد ہوں گی۔ آخڑا یہ شخص کو کیا سمجھایا جاسکتا ہے جو صعن اپنے نفس کی ایک غلط خواہش کی خاطرات نے بڑے گن ہ جانتے بوجھتے اپنے سر لینے پر آمادہ ہے۔

ب۔ ایسے شخص کو اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ان لوگوں میں کرنی چاہیں، جو وال جیت سے اُسی جیسے ہوں اور جو اس کے لیے تیار ہوں کر اپنی چادر سے نہ رہ خود زیادہ پاؤں پھیلائیں اور نہ دوسرا کے کو زیادہ پاؤں پھیلانے پر مجبور کریں۔ اپنے سے بہتر والی حالات رکھنے والوں میں شادی بیاہ کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو خواہ مخواہ مشکلات میں متلا کرنا ہے۔

ج۔ یہ صورت تو کچھ فطری سی ہے، لیکن اس کو خود سے زیادہ بڑھانا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی لڑکی جوان اور شادی کے قابل ہو چکی ہو اور کوئی مناسب لڑکا نظر کرے، تو اس میں کوئی سرفالقہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے پیغام دینے کی ابتداء کرے۔ اس کی مثالیں خود صحابہ کرام میں ملتی ہیں۔ اگر یہ بات حقیقت میں کوئی ذلت کی بات ہوتی تو نبی صلیم اس کو منع فرمادیتے۔

د۔ یہ سب چیزیں وہ پھندے ہیں جو لوگوں نے اپنے گئے میں خود ڈال لیئے ہیں، ان میں یعنیس کر ان کی لمدگی اب ٹنگ ہوئی جا رہی ہے، لیکن یہی جہالت اور نارانی کی وجہ سے ان کو کچھ طرح پھوٹنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔

اس کا لاج یہ نہیں ہے کہ برا اور است ان سماں کے خلاف کچھ کہا جائے، بلکہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دھوت دی جائے۔ خدا اور رسول کے طریقہ پر لوگ آجایں تو بڑی خرابیاں بھی دور ہوں گی اور یہ چھوٹی خرابیاں بھی نہ رہیں گی ۔

سوال :-

میں عرصہ سے تحریکی زندگی گزار رہا ہوں اور اس سبب کی ذمہ داری یہ رہے "اجتہاد" کے سر ہے۔ ہمارے اطراف میں کچھ اس قسم کے اصول و مراسم شائع ہیں جن کے بارے میں اگر فقہی موسنگا فیوں سے حکم لینا شروع کر دیا جائے تو ان کو "نا جائز" اور "غیر شرعی رسم" کہنا شکل ہو گا۔ مثلاً یہ کفسوہ یا ملکوہ کے پیلسے زیور و پارچہ جات کا مطلبہ کچھ کاپس کے لین دین، ایک مدمرے کے کینوں اور خدمت نگاروں کو البتہ عظیم و افقام کچھ دنیا دلانا، بلکہ ای اہل قرابت کو بلانا اور ان کی ضیافت کرنا غیرہ۔ یہ بہت سی چیزوں بظاہر اگر علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھی جائیں قوانین سے غالباً کسی ایک کو بھی ناجائز کہا جاسکے گا۔ لیکن اگر ان مراسم کے اس پہلو پر نظر ڈالی جائے کہ ان کی پابندی اپنے اتزام اس حد تک ہے کہ ان کے بغیر کامیابی ہی نہیں ہوتی اور کوئی کسی حدود کا آدمی کیوں نہ ہو۔ ان کی پابندی قول کیے بغیر ازدواجی زندگی کا آغاز کر سی نہیں سکتا تو بالکل صفائی سے یہ بات سمجھو میں آتی ہے کہ یہ چیزیں اب صرف

" سبحان " کے درجہ پر باقی نہیں رہی ہیں، بلکہ یہ سب برادری کا ایک قانون بن گئی ہیں اور ایسا قانون کہ ان کی خلاف عذری کرنے والوں کو یا جوں مقصود ہوتا ہے پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر باطل قانون کو توثیر دیا جائے، چاہے وہ کہیں ہو، تو سوال یہ ہے کہ کیا ذکورہ بالا چیزیں اس شکست درخیلت کی متحقی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ جملہ کی متحقی ہیں، جیسا کہ میری طالعے ہے تو کیا یہ حقیقت آپ سے فتنی ہے کہ ہندستان کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اس قسم کی "شرعیتِ رسول " نافذ العمل ہو، خواہ اس کی تفصیل اشکال کچھ ہوں۔ جن تقریبات کو آجکل "شرعی تقریبات" کہا جاتا ہے وہ بھی بین صرف اس حد تک "شرعی"

ہوتی ہیں کہ ان میں ناپاچ، با جہد گا جہد اور ایسی ہی دوسری خرافات و مزخرفات نہیں ہوتی، لیکن ذکورہ بالا رسول کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان میں بھی بدرجہ اتم موجود رہتی ہیں اور انہیں "اباحت" کی چادر میں چھپا لیا جاتا ہے۔ پس کیا چماخت اسلامی کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے اراکین کو "غیر شرعی رسول" کی دھماحت اس طرح کر کے بنائے کر یہ "اباحت" کی قباقاک ہو جائے اور وہ اپنی تقریبات کو بالکل منسوں طریقہ پر منایں۔

اگر ان رسول کے خلاف میرا احساس صحیح نہ ہو تو پھر کچھ وضاحت سے "شرعیتِ رسول" کے دامرات کو قابل بغاوت قوانین باطل سے مستثنی قرار دینے کی وجہ تحریر فرمائیں۔ اس سے اگر میرا اطمینان ہو

گی تو تجھر کی صدیقت سے بخات حاصل ہو سکے گی اور اگر آپ نے
میری رائے کی تصدیق کی تو پھر میرے نیے بھاہر کا میہانی کا کہیں موقع
نہیں ہے۔ مگر مجھے اس سے بڑی صرفت ہو گی، کیونکہ پھر تکلیف صحیح معنوں
میں اللہ کی راہ میں ہو گی۔ و لعنه اللہ عجلت بعد ذلك امراً ۔

جواب:-

ہم "الاقدم فالاقدم" کے اصول پر کام کر رہے ہیں۔ پہلے دین کی خبروں کو
دلوں میں جانا ضروری ہے، اس کے بعد تفصیلات کو ایک ترتیب و تدریج کے
ساتھ زندگی کے مختلف گوشوں اور کوئوں میں درست کرنے کا موقع آئے گا۔
اگر ہم شادی بیاہ، یعنی دین اور دوسرے معاملات کی تفصیلات و جزئیات بیان
کرنے پر اتر آئیں تو ہماری اصول درعوت کا کام منتشر ہو جائے گا۔ اس لیے
جہاں تک دین کے بیانی امور کا تعلق ہے ہم ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے
ہیں، اور جہاں تک جزئیات کا تعلق ہے ان کے متعلق ہم سر درست اجمال سے
کام لئے رہے ہیں۔

شادی بیاہ وغیرہ تقریبات کی رسوم کی پوری پوری اصلاح اس وقت تک
ہو سکتی ہے جب تک کہ دینی زندگی اپنی صحیح بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہوئی اس
مرحلہ پر پہنچ جائے، جہاں ان چیزوں کی اصلاح ممکن ہو۔ اس وقت تک
ہمارے ارکان کو فریادہ تصرف ان چیزوں سے اجتناب پر اصرار کرنا چاہیے جن کو
حرثی خلافت شرعیت کہا جا سکتا ہو۔ میں وہ چیزیں جو معاشرت اسلامی کی روح کے
تو خلاف ہیں مگر مسلمانوں کی موجودہ معاشرت میں قانون و شرعیت بھی ہوں ہیں تو وہ

ہمارے ذوقِ اسلامی پر خواہ کتنی ہی گراں ہو، لیکن صردست ہمیں ان کو اس امید پر گوارا کر لینا چاہیے کہ تبدیلیتیں ان کی اصلاح ہو سکے گی۔ مگر یہ گوارا کرنے انصافی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ احتیاج اور فہاش کے ساتھ ہو۔ یعنی ہر لیے موقع پر واضح کر دیا جائے کہ شرعاً احتیاج تو اس طرح کے نکاح چاہتی ہے جیسے ازدواج مطہرات اور دوسرا سے صحابہ کے ہونے تھے، لیکن اگر تم لوگ یہ مخالفت کیے بغیر نہیں مانتے تو مجبوراً ہم اس کو گوارا کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت آئے جب تم بھی اور اصحاب بھی اس کی طرح سارہ نکاح کرنے کو اپنی شان سے فردت نہ کجھو!

ہمارا یہ روایت تو عام لوگوں کے لیے ہے جن سے ہم مختلف قسم کے رد الظہ پیدا کرنے اور جن کے ساتھ کئی طرح کے دنیوی امور میں معاملہ کرنے پر مجبور ہیں۔

لیکن خود اسکا جو مدت کے بعد میان ایسے چنے رد الظہ اور معاملات بھی ہوں، انہیں رسول کی آلوگیوں سے پاک کر کے ساری کی اس سطح پر لے آنا چاہیے جس تک بھی صل اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے انہیں پہنچایا تھا۔ ہمارے معاملات میں بہادرات کو مباحثت ہی کی حد تک رہنا چاہیے۔ رواج کی رو دیں بہنے والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بفادت کرنا بھی چاہتے ہیں مگر چل کی جدعت نہیں کر سکتے۔ رکھوں کی بیڑیوں سے بخات حاصل تو کرنا چاہتے ہیں مگر دوسروں سے پہنچے انہیں کامنے کی جرأت نہیں رکھتے۔ اپنی پیشوں پر لدے ہوئے رداجوں کے بوجھوں سے ان کی کرسی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں مگر ان کو پتخت دینے میں پیش قدی نہیں کر سکتے۔ یہ چل اور پیش قدمی اب ہم لوگوں کو کرنی ہے۔ ہمارے ہر ساتھی کا یہ فرض ہے کہ زندگی کے ردیف ترہ کے معاملات اور تقریبات کو گوناگون پانپدوں سے آزاد

کرنے میں پوری بیلے ہاک سے پہل کرے۔ اور لوگوں کی "وناک" بچانے کے خود نکون بن کر معاشرتی فرندگی میں انقلاب برپا کرے۔ خالص اسلامی انداز یہ تقریبات اور معاشرات کو سرا بخام دینے کی مثالیں اگر جگہ جگہ ایک دفعہ قائم کرو جائیں گی تو سوسائٹی کا پھر عصر ان کی پیر دی کرنے کے سبیلے آادہ ہو جا۔ گا اور اس طرح رفتہ رفتہ احوال بدل سکیں گے۔

سوال :-

ہمارے علاقے میں عام طور پر نکاح کا مہر نو صدر روپیہ میں ہوتا ہے۔ اس سے تین سو روپیہ کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور چھ سو روپیہ کی رقم وصول طلب رہتی ہے۔ لیکن بالعموم مرد کی طرف سے اس چھ سو کی ادائیگی کی فوتوں کبھی نہیں آتی۔

ہمارے ایک رشتہ دار کی لڑکی کا نکاح آج سے قبل ۱۵ سال قبیل ہوا تھا اور اس کا مہر دس ہزار روپیہ قرار پایا تھا۔ لڑکے کی طرف سے اول اول استئنے ہر کو تسلیم کرنے میں پس و پیش ہوتا رہا مگر آخر کار بعض اس دوسرے سے یہ سہ شصت روپیہ کی کہ یہ سب کچھ ایک نمائشی رسماں کے ہوا کچھ نہیں۔ اب اسی رشتہ دار کی دوسری لڑکی کی نسبت میرے چھٹے بھائی کے ساتھ ملے پائی ہے اور اب بھروسی اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ لڑکی کے اولیا اور کی طرف سے قبل از وقت یہ الطوع پیچا دی گئی ہے کہ مہر دی لو دس ہزار روپیہ مقرر ہو گا۔ اگر اس رقم میں اب کوئی کمی کی جائے تو ان کا پہلا دامہ

بجڑ جائے گا کہ جب اس کے لیے دس ہزار روپیہ رکھا گی تھا تواب
دوسرے دارے کو ٹھیکانے کی صورت پر سوچی ہے کہ مجلس
نکاح میں جب کہ ہمارے عزیز کا پہلا دام موجود ہوا، مہر دی ہی تو دس
ہزار روپیہ تحریر کیا جائے گا، مگر بعد میں خفیہ طور پر اس تحریر کو بدل کر
تو ہزار سے نو سو کروڑ یا چھٹے گا۔ اس طرح نہ پہلا دام نامناسب ہو گا اس ہمارے
چھٹے بھائی پر ہار دے گا۔

مجھے اس مجازہ صورت معاطلہ میں کشک سی ہو رہی ہے اور میں نے
اس کا انہیا اپنے والدین قائم کے سامنے بھی کر دیا ہے اور ان سے مختار
کیا ہے کہ وہ ملا نے شریعت سے استھن اکیا جا چکا ہے اور ان کی
فرمایا کہ ایک مقامی مفتی صاحب سے استفتاد کیا جا چکا ہے اور ان کی
راستے میں ایک معاشر میں طرفین جب راضی ہیں تو شریعت متعارض نہیں ہو
ہو سکتی۔ اس پر میں نے والد صاحب پر ان پا عدم المیان نظاہر کیا ہے۔

یہی معاشر جماعت اسلامی کے ایک رکن کے سامنے رکھا تو انہوں
نے فرمایا کہ مجازہ صورت معاطلہ میں ایک تو پھرے دام کو فریب دیا جائے
گا اور دوسرا دس ہزار مہر کی بہر حال ایک اور شمال عوام کے سامنے قائم
کی جائے گا اور کم درواج کی پڑیوں میں گویا ایک کڑی کا اضافہ کیا جائے
گا۔ اس وجہ سے میں اسے صحیح نہیں کہتا۔

اب مشکل ہے کہ نکاح کی مجلس میں داشت کے کام جانی ہونے کی وجہ

سے مجھے شرکیب بھی ہونا ہے اور شاید دکیل یا گواہ بھی بننا پڑے، اور
حودت ایسی ہے کہ میرا صبر اس کے ہاتھ ہوئے کی شہادت نہیں دیتا۔
اگر میں بخوبی دکیل یا شاہد مل جائیں میں شرکیب ہوتا ہوں تو اذخر اس غلطی میں
حکم دار ہوں جیسی کو سوچ کر میرے اعزاز کرنے گے ہیں۔ اگر شرکت
سے باز رہوں تو وہ کچھ جسے مل کر میں بھائی کی شادی پر خوش نہیں ہوں۔
نیز اگر عدم شرکت کی وجہ سے پہچھی جائے تو میں خاموش رہنے پر بور
ہوں، کیونکہ اگر حقیقت بیان کر دوں تو سارا معاملہ درست بھی ہو کے رک
۔ ۔ ۔

اب برا و کرم آپ میرے یہی صحیح اسلامی مردی تجویز فرمادیں انشا اللہ
میں دنیوی تعلقات اور مفاد کو تعییں میں حاصل نہ ہونے دوں گا۔ میں صرف
شرعیت کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اتباع پر تیار ہوں، فرا
کے یہی کوئی تاویل مجھے مطلوب نہیں ہے۔

جواب ۔ ۔

حمد عواملہ آپ نے سمجھا ہے وہ ایک نوادرت ہے ان فلسطکاریوں کا جن میں
سلمان شرعیت و اخلاق سے دور ہو کر متلا ہو گئے ہیں۔ شرعیت نے ہر کو حودت
کا ایک حق مقرر کیا ہے اور اس کے لیے یہ طریقہ طے کیا تھا کہ حودت اور مرد
کے درمیان جتنی رقم طے ہو اس کا اداکار نامرد پر داجب ہے۔ لیکن مسلمانوں
نے شرعیت کے اس طریقہ کو جعل کر ہر کو ایک رسی اور دکھادے کی چیز بنان
لیا۔ اور دشمنے ہر دکھادے کے لیے باز منے شروع کیے، جن کے

اداکرنے کی ابتداء ہی سے نیت نہیں ہوتی اور جو خاندانی نزاع کی صورت میں عورت اور مردوں کے لیے بائیے ہوں جان بن جاتے ہیں۔ اب ان غلطیوں سے بچنے کی سیدھی اور صاف صورت یہ ہے کہ ہر اتنے ہی باندھے جائیں جن کے اداکرنے کی نیت ہو، جن کے اداکرنے پر شوہر قادر ہو۔ پورا ہر بردقت اداکرہ دیا جائے تو بہتر ہے، درد اس کے لیے ایک مدت کی قرارداد ہوں گے اور آسان قسطوں میں اس کو اداکرہ دینا چاہیے۔ اس راستی کے طریقہ کو چھوڑ کر اگر کسی قسم کے چیزوں نکلے جائیں گے تو تجویز اس کے سوا اور کچھ زہو گا کہ ایک غلطی سے بچنے کے لیے دس قسم کی اور غلطیاں کی جائیں گی جو شرعاً کی نکاح میں بہت بُری اور اخلاق کے اعتبار سے نہایت بد نہماں ہیں۔ آپ ایسے نکاح میں دکیل یا گواہ کی حیثیت قبول نہ کریں، بلکہ فریقین کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اگر ذہانیں توان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ نکاح میں شرک ہونے میں کوئی مضا نہیں ہے لیکن جھوٹ اور فریب کا گواہ بننا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔

—————

درہ جان القرآن۔ ذی القعدہ ۱۴۲۵ھ۔ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

آلات کے ذریعہ سے توالد و تناصل

سوال :-

کیا اوری آلات کے ذریعہ سے اگر مرد کا نطفہ کسی عورت کے رحم میں پہنچ دیا جائے اور اس سے اولاد پیدا ہو، تو یہ عمل مضرت سے

خالی ہونے کی وجہ سے مباح ہے یا نہیں؟ اور اس عمل کی معمولہ زانیہ
شمار کی جائے گی، اور اس پر خذجاتی ہو گی یا نہیں؟ اس امر کا خیال
رکھیے کہ آجکل کی فلیشن دار عورت مرد سے بے نیاز ہونا چاہتی ہے
وہ اگر سافٹ فک طریقوں سے اپنے حصہ کا نسل بڑھانے کا فرائض
اوکر دے تو پھر اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوئی چاہیے۔ امر کو
میں اس طرح پیدا ہونے والی اولاد کو اور دوسرے قانون جائز اولاد تسلیم
کیا گیا ہے؟

جواب :-

آلات کے ذریعہ سے استقرارِ محل کا جواز تو در در ہا، میرے لیے اس
عمل کا تعصّد ہی ناقابل بہداشت ہے کہ عورت گھوڑی کے مرتبے تک گرا
دی جائے۔ آخر انسان کی صفتِ انسانیت اور حیوانات کی مادہ میں تو تو فرق
رہنے دیجئے۔ حیوانات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اولاد و تناصل کا جو طریقہ مقرر
کیا ہے وہ نہ اور مادہ کے اجتماع کا طریقہ ہی ہے۔ یہ انسان کی خود غرضی ہے
کہ وہ گھوڑیوں کو اپنے زرول سے مٹنے کا لطف حاصل نہیں کرنے دیتا اور
ان سے صرف نسل کشی کام لیتا ہے۔ اب اگر انسان کی اپنی "مادہ" کے ساتھ
بھی یہی بر تماذ شروع ہو جائے تو اس کے معنی انسانیت کی انتہائی مذلیل کے
ہیں۔

آج کی "فیشن دار" عورت جو مرد سے بے نیاز ہونا چاہتی ہے، دراصل
اس کی فطرت کو مصنوعی فکری و صنفی داحول نے مسخ کر دیا ہے۔ ورنہ اگر وہ

مجموع انسانی فطرت پر بہتی تو اس قسم کی گئی نہیں خواہش کو دل میں جگہ دینا تو دکار ایسی تجویز سننا بھی گوارا نہ کرتی۔ عورتِ بعض نسل کشی کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت اور مرد کا تعلق انسانی تمدن کی تحریت نبیاد ہے۔ فطرت الہی نے عورت اور مرد کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان میں ملوثت اور رحمت ہو، حسنِ معاشرت ہو، مل کر گھر بنائیں، گھر سے خاندان اور خاندان سے سوسائٹی نشوونما حاصل کرے۔ اس مقصود کو ضائع کرنے کے عورت کو بعض نسل کشی کا آلهہ نباد میں خلیفہ پیغمبرؐ خلقِ اللہ (اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دینے) کا مصدق ہے جسے قرآن ایک شیطانِ فعل قرار دیتا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان سکارح کا طریقہ مقرر فرمایا ہے ہندو ہی اولادِ جائز اولاد ہے جو قیدِ نکاح میں پیدا ہو۔ اسی سے واثت اور نسب کی تحقیق ہوتی ہے۔ اگر آلهہ کے ذریعہ سے بچپن پیدا کیا جائے تو اُس سے حلالی نہیں کہا جاسکتا۔ شرعی نقطۂ نظر سے وہ حرامی ہی کہا جائے گا۔ نیز اس کا سلسلہ آہانِ منقطع ہو گا اور وہ باپ کے درشدہ سے خودم رہے گا جو قطعی طور پر اس کی حقیقتی ہے۔

پھر طور تو کیجئے کہ جس بچپن کا کوئی باپ نہ ہو اس کی تربیت کا ذمہ دار کون ہو گا؟ صرف ماں؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ خدا نے انسان کے بچپن کے لیے ماں اور باپ، چچا اور ماں، دادا اور نانا وغیرہ لوگوں کی صفت میں جو مرتبہ پیدا کیے ہیں ان میں سے آدمی سے ساقط کر دیے جائیں اور وہ صرف سلسہ رہا وہی پر مخصر رہ جائے؟ کیا دنیا سے پدری محبت، پدرانہ ذمہ دار یوں اور

پر رانہ اخلاق کو فنا کر دینا انسانیت کی کوئی خدمت ہے ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ عورت پر ماں ہونے کی ذمہ داری قائم رہے مگر جنیہ کے بیٹے باپ ہونے کی ذمہ داری سے سبکدش ہو جائے؟

پھر اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو ایک روز عورت مطالبہ کرے گی کہ کوئی تکیب الیسی ہوئی چاہیے کہ انسان کا بچہ میرے رحم میں پر دش پانے کے بجائے "امتحانی نیلوں" میں پالا جائے۔ یعنی انسان کی بیماری معلم میں پیدا ہونے میں۔ اور جب تک یہ حالت پیدا نہیں ہوتی، عورت چاہیے گی کہ اسے بچہ جننے کی تکلیف دی جائے، اس کے بعد ماں کے فرائض انجام دینے کے لیے وہ تیار نہ ہوگی۔ یہ صورت جب رونما ہوگی تو انسانی بچے اسی طرح "کثیر پیداواری"

Mass Production) کے اصول پر ٹکریوں میں ڈھل ڈھل کر تکلیف کے جس طرح اب جو تے اور موزے نکلتے ہیں۔ یہ انسانیت کے تنزل کا آخری مقام، اس کا اسفل لاستافین ہوگا۔ ان "کارخانہ خانہ ہائے" نسل کشی تے انسان نہیں بلکہ مدٹنگے جاؤ رپیدا ہوں گے، جن میں انسانی شرف اور پاکیزہ انسانی جذبات و احساسات کی خوبی برائے نام بھی نہ ہوگی لعدہ سیرت کا دہ تنواع ناپید ہوگا جو تندن کی زنگانگ مزدیات کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ان کارخانوں سے کسی اسطوانہ این سینا، کسی غزالی احمدزادی، کسی سہیل اور کاثر کے پیدا ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ میرے خیال میں تودہ مادہ پرستانہ تہذیب لعنت بھینے کے قابل ہے جس کے زیر سایہ الیسی تجویزیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں۔ اس قسم کی تجویزیں کا انسانی دماغوں میں آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے

کہ اس تہذیب نے انسان کے ذہن میں خود انسانیت کے تصور کو نہایت پست اور ذلیل کر دیا ہے ۔

ترجمان القرآن۔ محمد مصطفیٰ جنوری، فردی سماں

اسلام اور آلاتِ موسیقی

سوال ۔

- (۱) کیا آلاتِ موسیقی بنا اور ان کی تجارت کرنا جائز ہے ؟
- (۲) کیا شادی بیاہ کے موقع پر باجے دغیرہ بیانہ اما جائز ہیں ؟ نیز تفریح ان کا استعمال کیسا ہے ؟
- (۳) اگر جواب نقی میں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو خود ان کا استعمال نہیں کرتے لیکن ایسے تعلق داروں کے ہاں بخوبی کشیدگی چلے جاتے ہیں ۔ جو آلاتِ موسیقی کا استعمال کرتے ہیں ؟
- (۴) کیا ہمارے لیے ایسے نکاح میں شامل ہونے کی اجازت ہے جہاں آلاتِ موسیقی کا استعمال ہو رہا ہو ؟
- (۵) آلاتِ ہو کے حامیوں کا خیال ہے کہ چونکہ آنحضرت کے زمانہ میں دُف ہی ایک موسیقی کا آلہ عرب میں رائج تھا، اور آپ نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے، لہذا ہمارے زمانے میں دُف کی اگر متعدد ترقی یافتہ شکلیں متعمل ہو گئی ہیں تو ان کا استعمال کیوں نہ روا

ہو ۔

(۱) کیا دُف آلاتِ ہومیں شامل ہے ؟

جواب:-

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں آلاتِ موسیقی کو توڑنے کے لیے بھی گیا ہوں ॥ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو بنی اس کام کے لیے صحیح گیا ہو اس کے پر و انہی آلات کو بنانے اور بھینپے اور بچائے کے لیے اپنی توقیں استعمال کریں ۔

(۲) شادی بیاہ ہو یا کچھ اورہ باجے بجانا کسی حال میں درست نہیں۔ حدیث میں جس حد تک اجازت پائی جاتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ شادی اور خیر کے موقع پر دُف کے ساتھ کچھ گالیا جائے ۔

(۳) یہ شخص ایمان کی کمزوری ہے کہ آدمی اپنے دوستوں اور عزیزینوں کی نارضی سے ڈر کرے ایک ناجائز کام میں حصہ رہے۔ رسولؐ اور صحابہؐ رسولؐ کے ساتھ جو لوگ جو اپنا حشر چھپتے ہوں ان کے لیے تو یہ مناسب ہے کہ ایسے لوگوں سے ربد ضبط نہ رکھیں جبکہ احکام شرعیت کی پرداز نہیں۔ درستہ جن کو ان لوگوں کے تعلقات ندیارہ عزیز ہیں، انہیں یہ سمجھ لئیا چاہیے کہ فاجرین اور صالحین کے ساتھ بیک وقت تعلق نہیں رکھا جاسکتا۔ جبکہ تمہاری دنیا فاجر دل کے ساتھ ہے تو آفرت میں بھی انہیں کا ساتھ نصیب ہو گا۔

(۴) جواب ملا حظہ ہو۔ مگر یہ خیال رہے کہ مجلسِ نماج میں جبکہ ایکاں دقبوں ہو رہا اور مٹکرات دفعاً حش کی نمائش نہ ہو رہی ہو شرکت کرنے میں مغلوق

نہیں، بلکہ اولیٰ یہ ہے کہ شرکت کی جائے اور جب موسیقی شروع ہو تو نہایت ترمی اور شرافت کے ساتھ یہ کہہ کر دستوں اور عزیزیوں سے رخصت چاہی جائے کہ جہاں تک تھا رے جائز کاموں کا تعلق ہے ہم تھا ری صفت میں مل سے شرکیں ہیں اور جہاں تک ناجائز کاموں کا تعلق ہے ہم ان میں نہ خود شرک ہونا پسند کرتے ہیں نہ یہ گوارا کرتے ہیں کہ تم ان ضرایبوں میں جنملا ہو۔

(۵) یہ محض غلطی ہے کہ دُف کے سوا اس زمانہ میں ان کوئی دوسرا آلات موسیقی نہ تھا۔ ایران اور روم اور مصر کی تاریخ اور خود حرب جاہلیت کی تاریخ تاریخ سے جو شخص جاہل محض ہو وہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ متعدد باجوں کے نام تو خود اشعار جاہلیت میں ملتے ہیں۔

(۶) دُف کا نام اگر آلات موسیقی میں شامل ہو سبی تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ شادی بیاہ اور عید کے موقع پر بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہ زیادہ سے زیادہ حد ہے جہاں تک آدمی جا سکتا ہے۔ اس آخری حد کو جو شخص نقطہ آغاز بنانا چاہتا ہو اس کو آفریس نے محصور کیا ہے کہ خواہ مخواہ اُس بنی کے پیروں میں اپنا نام سکھوانے جو آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھی گیا ہے؟

ترجمان القرآن۔ عمر، صفحہ ۲۳۷۔ جنوری، فردی گستہ)

گڑیوں کا حکم

سوال :-

کیا بچوں کے کھیل کا سامان، مثلاً چینی کی گولیاں، تاش، رہشہ کی چڑیاں اور لادکیوں کے لیے گڑیاں وغیرہ فردخت کرنا جائز ہے، نیز سندھوں کی فردخت کی گڑیاں بھی بھی جاسکتی ہیں؟

جواب :-

بچوں کے کھونے بھینپا بجائے خود ناجائز نہیں ہے الایک کہ کسی خاص کھونے یا کھیل کے سامان میں کوئی شرعی تباہت ہو۔ رہے ہے جانوروں اور آدمیوں کے مجستے تو ان کی دعسوں تھیں ہیں۔ ایک یہ کہ پوری باریکی سے تمام خردخال کے ساتھ انہیں بنایا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ بعض ایک سرسری ساڑھا چکہ کسی جاذر کا ہو جیسے عکڑی کے گھوڑے اور کپڑے کی گڑیاں۔ پہلی قسم کے عجتوں کی فردخت جائز نہیں ہے۔ البتہ دوسرا قسم کے کھونے آپ بچے سکتے ہیں۔ رہیں سندھوں کی فردخت کی گڑیاں تو اگر وہ مشرک کا زنجیلات کی نمائندہ ہوں، مثلاً کرشن جی کی صورتی یا رام چند جی کا مجرم وغیرہ، تو ان کی فردخت حرام ہے۔

اشتہاری تصویریں

سوال :- اشتہار کے لیے کینڈنڈر وغیرہ آج کل بھروسے کی تصاویر یہ

بنانے کا بہت راجح ہے، انیز لعجن شہر خصیتوں اور قومی رسمروں کی تعداد یہ بھی استعمال کی جاتی ہیں، علاوہ بریں تجارتی اشیاء کے ڈباؤں اور بوتلوں اور لفافوں پر چھپی جاتی ہیں۔ ان مختلف صورتوں سے ایک مسلمان تاجر اپنامن کیسے بچا سکتا ہے؟

جواب:-

اگر کوئی اشتہار یا کینڈر خود آپ چھپا میں تو اُسے تصویر سے پاک رکھیں۔ اور ضرورتاً اگر آپ کو اپنی ذات کے لیے کینڈر دل وغیرہ کا استعمال کرنا پڑے تو اُن تو بے تصویر ہیجئے، ورنہ تصادری کو چھپا دیجئے۔ لیکن ڈباؤں اور بوتلوں پر آپ کہاں تک تصادری کو مٹا سکتے ہیں۔ موجودہ تصویر پر سوت دنیا لفافوں پر آپ کہاں تک تصادری کو مٹا سکتے ہیں۔ نے قسم کیا ہے کہ کسی چیز کو تصویر سے خالی نہ چھوڑے گی۔ ڈک کے لمحوں اور سکون تک پر تصادری موجود ہیں۔ یہ ہر گیر نظام طاغوت اپنی ناپاکیوں اور غلامتوں کو ہڑتے سے لے کر شاخوں اور پتوں تک پھیلایا چکا جا رہا ہے۔ لبس اپنی نظام حق کا اقتدار ہے۔ اس کی ہڑت کٹے گی تو شاخیں آپ ہی ہجڑ جائیں گی۔

کنیز کی تعریف اور اس کے حلال ہونے کا حکم

سوال:- قرآن نے کنیز کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ اور کنیز کے

بانکار حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟

جواب:-

قرآن میں کنیز کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ "وَهُوَ عَورَتُ جَوْزِ دُرْبَانِ زَوْسَ" میں حاصل ہے۔ اور چند تکہ قرآن نہ در بارہ بازو کے استعمال کو صرف قتال فی سبیل اللہ تک محدود رکھتا ہے اس لیے قرآن کی تعریف کی رو سے کنیز صرف وہ عورت ہے جو راو خدا میں جنگ میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔

یہ تعریف اور السی عورت کے حلال ہونے کی دلیل اس آیت میں ہم کو ملتی ہے، **حُرْمَةُ عَدِيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَنَكَتْ أَمْسَاكُمْ** (حرام کی گئیں تمہارے لیے تمہاری دامیں اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں مساواں عورتوں کے جن کے والک ہوئے تمہارے سیدھے ہاتھ)۔ سیدھا ہاتھ عربی میں تدریت غلبہ دشمن اور بازو کے مفہوم میں یہ لا جاتا ہے۔ یہ بجاۓ خود کنیز کی مذکورہ بالا تعریف کے حق میں کافی دلیل ہے۔ اس پر مزید دلیل یہ ہے کہ وہ شادی شدہ عورت جس کو اس آیت میں حرمت کے حکم سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، بہر حال وہ عورت تو نہیں ہو سکتی جس کا نکاح دار الاسلام میں ہوا ہو، کیونکہ آیت کا سیاق خود بتا رہا ہے کہ وہ ان محصنات میں شامل ہے جو حرمت علیکم کے تحت آتی ہیں اس لیے لامحارہ إِلَّا مَا مَنَكَتْ أَمْسَاكُمْ سے مراد وہی شادی شدہ عورتیں ہوں گی جن کے نکاح دار الحرب میں ہوئے ہوں اور لپھروہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں۔

رسی اُن کے بلا نکاح حلال ہونے کی دلیل، تو وہ یہ ہے کہ اول تو ذکر کوہ
بالا آیت میں جن شادی شدہ عورتوں کو حرام کیا گیا ہے اُن سے وہ عورتیں مستحبی
کردی گئی ہیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا :
وَأَحْلَّ لَكُمْ مَا دَرَأَتُهُ اللَّهُمَّ أَنْ تَبْتَغُوا بِمَا مُؤْمِنُونَ
غیر مُسَافِحِينَ (ادر حلال کیا گیا تھا رے یہ ان کے سواد و صری عورتوں
کو اس طور پر کہ تم ان کو اپنے اموال کے بدالے حاصل کرو قید نکاح میں لانے والے
بن کر، زکر آزاد تھوت مانی کرتے ہوئے)۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ طلب
یعنی میں آئی ہوئی عورتوں کو مہر دے کر نکاح میں لانے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ اس کے بغیر بھی حلال ہیں۔

اس معنی پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے :

قد افْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ حَمِدُوا فِي صَلَوةِهِمْ
خَاشِعُونَ والَّذِينَ هُمْ لِفَرْوَاجِهِمْ
حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى إِذْ وَاجَهُمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ صَلَوَاتِينَ ۝

(فلام پالی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع برستتے ہیں
..... اندھوں پر شرم گاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں سو اے' اپنی
بیویوں یا اپنی لوزٹیوں سے محفوظ رکھنے پر وہ قابل علمت نہیں
ہیں)۔

اس آیت میں اہل ایمان کے لیے مقدم کی عورتوں سے تعلق شہوانی کو

جانز پھرایا گیا ہے۔ ایک ان کی ازواج۔ اور دوسرے مالکت آئیا نہم۔ ازواج سے مراد تو نظر ہے کہ منکوحہ بیویاں ہیں۔ اب اگر مالکت آئیا نہم۔ بھی منکوحہ بیویاں ہی ہوں تو ان کا ازواج سے الگ ذکر سراسر فضول پھرتا ہے۔ لامی الہ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اُن سے محض بلکہ یہیں کی بنابرائے جائز ہے۔

(ترجمان القرآن۔ شوال ۱۴۲۵ھ۔ جون ۱۹۵۶ء)

تعذر ازدواج اور لوٹدیاں

سوال:-

حسب ذیل آیت کی تفہیم کے لیے آپ کو تکمیل دے رہا ہو،
وَإِنْ خُفْتُمُ اللَّهَ تَقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ إِنِّي فَانِكِحُوا مَا
كَاتَبَ لِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْتُقًا وَقُلْتُ وَرُبِّعَ
فَإِنْ خُفْتُمُ اللَّهَ تَعْذِيرُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكْتُ آئِيَانُكُمْ
لہیافت طلب امر ہے کہ اس آیت میں چار بیویاں کے لئے کی
اچانست ہر اس شخص کو سہ جو قیم لڑکیوں کا دل ہو اور اس امر کا
اندازہ ہو کہ دہ ان لڑکیوں کے متعلق انصاف نہ کر سکے گا؟

دوسرے سوال یہ ہے کہ بیویوں کے متعلق تو تعذر کی قید ہے کہ
زیادہ سے زیادہ چار بیویاں کی جاسکتی ہیں۔ لیکن لوٹدیوں کے ماتھے

تعلقات زن و شوہر قائم کرنے کے ہارے میں ان کی تعداد کے متعلق کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ہو کہ جنگ نکے زمانے میں جو عورتیں پڑھی ہوئی آئیں گی ان کی تعداد کا تعین نہیں کیا جاسکتا، اس لیے لوندیوں سے تمعّن حاصل کرنے کے متعلق بھی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا، تو میں یہ عرض کر دیا گا کہ بے شک یہ صحیح ہے اور اس لحاظ سے یہ تعین بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ایک مکان کے حصہ میں کتنی لوندیاں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے حصہ میں دس آئیں اور دوسرا کے حصہ میں بیس۔ یکن جہاں تک ان لوندیوں سے تمعّن کا تعلق ہے اس کا تعین تو بہر حال ہو سکتا تھا کہ ایک شخص کے پاس لوندیاں چاہے کتنی ہی ہوں وہ ان میں سے صرف ایک یا دو سے تمعّن کر سکتا ہے، جیسا کہ بیویوں کی صورت میں تحدید ہے۔

اس آزادی کے ہوتے ہوئے ایک شخص نہ صرف یہ کہ مال غنیمت میں حصہ کے طور پر بہت سی لوندیاں حاصل کر سکتا ہے، بلکہ وہ ان کی جتنی تعداد چاہے خریدی بھی سکتا ہے۔ الیسی صورت میں ایک نفس پرست سرما یہ دار کے لیے کھلا ہوا موقع ہے کہ وہ جتنی لوندیاں چاہے فریے کے اور ہوس رانی کرتا ہے۔ لوندیوں سے بلا تعین تعداد تمعّن کرنے کی کھلی ہوئی اور عام اجازت دریٹے کی وجہ سے معاشرہ کے اندر دی خراپی داخل ہو جاتی ہے جس کو اسلام نے زنا کہہ کر سخت سزا کا مستوجب

قرار دیا ہے۔ میرے خیال میں یہی سبب تھا کہ جوں جوں مسلمانوں کی
سلطنتیں وسیع ہوئیں اور ان کی دولت میں اضافہ ہوا، مسلم سوسائٹی میں
رجنم کی سزا کے جاری ہونے کے باوجود ہوس رانی پڑھتی گئی۔ کوئی
قانون ایسا نہ تھا جو اس طریقہ کا انسداد کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ظن
بنو امیرہ اور عباسیہ کے وہ میں دو مذکوروں کے غول کے غول پھرتے ریختے
ہیں اور بھرپور تاریخ میں اُن ذیل سازشوں کا حال پڑتے ہیں جو لوندھی
غلاموں کے فدے یعنی پروان چڑھتی تھیں۔ پس میری لائے ہے کہ اگر
لوندھیوں سے تعلق کرنے کی اجازت بھی ہے تھیں تعداد ہوتی تو مسلم معاشرہ
میں وہ مفاسد اور نفس پرستیاں نہ پیدا ہوتیں جن کی طرف اور پہ اشارہ
کیا گیا ہے۔ بہر حال ارشاد فرمائی ہے کہ شارع نے کن دجوہ و دصلیح کی
بان پر لوندھیوں سے تعلق کی اجازت دیتے ہوئے تعداد کا تعین نہیں
کیا؟

اسی منن میں ایک تیرا سوال یہ ہے کہ اگر لوندھی شتر کہ ہو تو کیا
اس کے ساتھ تعلق جائز ہے؟

جواب اللہ:

آیت وَإِنْ بِخُفْتُمْ أَلَا تَقْسِمُهُوا فِي الْيَتَامَىٰ پر تفصیل کے ساتھ

یہ اس طرح کے سوالات اور ان کے جوابات سے لوگ ہماروں کا یہ سمجھنے لگتے
ہیں کہ شاید یہ مسائل حال یا مستقبل کے لیے زیر بحث آز ہے ہیں۔ حالانکہ دراصل ان

تفہیم القرآن میں نوٹ مکھ چکا ہوں۔ اس کے اعادے کی حاجت ہیں۔ آپ اسے ظاہر فرمائیں۔ جہاں تک خدا اس آیت کی تفسیر کا تعلق ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور صحابہ و تابعین سے منقول ہیں۔ مثلاً ایک معنی یہ ہی ہے

سوالات کا تعلق اُس مدد کے حالات سے ہے جب کہ دنیا میں اسیران جگ کے تبارہ کا طریقہ رائج نہ ہوا تھا اور فدییے پر بھوت کرنا بھی دشمن سلطنت آن کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ اُج ان مسائل پر بحث کرنے کی غرض یہ نہیں ہے کہ ہم اب لندنیوں کی تجارت کا بازار کھولنا چاہتے ہیں بلکہ اس کی غرض یہ تہامانہ ہے کہ جس مدد میں اسیران جگ کا تبارہ اور فدییے کا مقابلہ ملے نہ ہو سکتا تھا اس زمانہ میں اسلام نے اس پھیپھی مسئلہ کو کس طرح حل کیا تھا۔ نیز اس کی غرض ان اختراضات کو رفع کرنا ہے جو نادائقِ لوگوں کی طرف سے اسلام کے اس حل پر کیے جاتے ہیں۔ ہم نے جب کبھی اس مسئلے سے بحث کی ہے اسی غرض کے لیے کی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ فتنہ پر واڑ لوگ جان لہر جو کہ اسے یہ معنی پہنچاتے ہیں کہ ہم آج اس زمانہ میں بھی غلامی ہی کے طریقے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، خواہ اسیران جگ کا تبارہ اور فدیی نہیں ہو یاد ہو۔ ہم معلوم ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کسی غلط فہمی کی بناء پر نہیں کہتے ہیں، اور ہم ان سے اتنی حیماری کی توقع بھی نہیں کرتے کہ وہ ہماری اس تصریح کے بعد اپنی الزام تراشیدوں سے ہاڑ آ جائیں گے۔ تاہم یہ تصریح صرف اس سے کی جاتی ہے کہ جو لوگ ان کی ہاتوں سے کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔

کہ اگر تم قیمتوں کے ساتھ یوں انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی عورتوں سے نکاح کر دو جن کے شوہر رچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قیم بچے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے زیادہ ملتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ حدود جنگ احمد کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے لیکن یہ ہات کہ اسلام میں چار بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور یہ کہ بیک وقت چار سے نزدیکی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ اس فرمان کا کوئی تعلق تیامی کے معاملہ سے نہیں ہے، مغض اس آیت سے نہیں تھی بلکہ نبی صل اللہ علیہ وسلم کی اُس قول و عمل تشریع سے معلوم ہوتی ہے جو آپ نے اس آیت کے تردیل کے بعد فرمائی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ان لوگوں کو جن کے نکاح میں چار سے نزدیک عورتیں قیصی حجم دے دیا کہ وہ صرف چار کھلیں اور اس سے زائد جس قدر بیکھلوں انہیں چھوڑ دیں۔ حالانکہ ان کے ہاں تیامی کا کوئی معاملہ درمیش نہ تھا۔ نیز آپ کے ہند میں بشرت صحابہ نے چار کی حد کے اندر متعدد نکاح کیے اور آپ نے کسی سے یہ نہ فرمایا کہ تمہارے لیے قیم بچوں کی پر درش کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے تم اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتے۔ اسی بناء پر صحابہؓ سے کہ بعد کے اوداڑ تک امت کے تمام فقہاء نے یہ سمجھا کہ یہ آیت نکاح کے لیے ہے یہ یک وقت چار کی حد مقرر کرتی ہے جس سے تجاوز جائز نہیں کیا جاسکتا، اور یہ کہ چار کی اجازت عام ہے، اس کے ساتھ یہ کوئی قید نہیں کہ تیامی کا کوئی معاملہ بھی درمیان میں ہو۔ خود حضورؐ نے متعدد نکاح کیے اور کسی

میں میوں کے مسئلے کا دخل نہ تھا۔

لوندیوں کے پارے میں آپ یہ جو تجویز پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص کو لوندیاں تو بلا قید تعداد اور رکھنے کی اجازت ہوتی مگر تسع کے لیے ایک یادو کی حد مقرر کر دی جاتی۔ اس میں آپ نے صرف ایک ہی پہلو پر نگاہ رکھی ہے، دوسرے پہلو اس پر غور نہیں فرمایا۔ تسع کے لیے جو حد بھی مقرر کی جاتی ہے، اس سے زائد بھی ہوئی خود توں کے مسئلہ کا کیا حل تھا؟ کیا یہ کہ وہ مرد کی صحبت سے منتقل ٹھوڑ پر خود م کر دی جاتی ہے؟ یا یہ کہ انہیں گھر کے اندر اور اس کے باہر اپنی خواہشاتِ نفس کی تسکین کے لیے ناجائز وسائل تلاش کرنے کی آزادی دے دی جاتی ہے؟ یا یہ کہ ان کے نکاح لازماً دوسرے لوگوں سے کرنے پر مالکوں کو ارادہ نہیں قانون مجبور کیا جاتا اور قیدی خود توں کو سنبھالتے کی ذمہ داری دلانے کے علاوہ ایک ذمہ داری ان پر یہ بھی دلال دی جاتی کہ وہ ان کے لیے ایسے شوہر تلاش کرتے پھری جو لوندیوں کو نکاح میں لینے پر راضی ہوں؟

آپ کے تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ لوندی سے تسع کے لیے شرعاً میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب میں سے ہو۔ اور یہ قید عقل کا رُد سے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مصلحتیں آدمی سے زیادہ فوت ہو جائیں جن کی بناء پر اسیرانِ خبک کو (تبادلہ نہ ہونے کی صورت میں) افراد کی ملکیت میں دینے کا طریقہ پسند کیا گیا تھا اور قیدی خود توں سے ان کے مالکوں کو تسع کی اجازت دی گئی تھی۔ کیونکہ اس صورت میں صرف وہ خود تھیں مسلم

سوسائٹی کے اندر جذب کی جاسکتی تھیں جو کسی اہل کتاب قوم میں سے گرفتار ہو کر آئیں ہوں۔ غیر اہل کتاب سے جنگ پیش آنے کی صورت میں سلامانوں کے لیے پھر یہ منشاء حل طلب رہ جاتا کہ ان میں سے جو عورتیں قید ہوں ان کو دارالاسلام کے لیے فتح بننے سے کیسے بچایا جائے۔

ترجمان القرآن۔ شوال ۱۳۶۵ھ - جون ۱۹۵۶ء

تعددِ ازدواج پر پابندی

سوال :-

میں آپ سے ایک سلسلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر اسلامی ریاست میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہو تو کیا حکومت اس بنا پر تعددِ ازدواج پر پابندی عالمگر سکتی ہے؟

اس سوال کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی ہے کہ میرا افادہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں تعددِ ازدواج کی اجازت دی ہے دہاں ہنگامی صورت حال پیش نظر تھی۔ اس زمانے میں سالہا سال کے مسلسل جنگاد کے بعد بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں اور بچے بے اسراء و تیم رہ گئے تھے۔ اس صورت حال سے نشانے کے لیے یہ اجازت رہی گئی تھی، تاکہ بیواؤں اور تیم بچوں کو سوسائٹی میں جذب کیا جاسکے اور ان کی کفالت کی شاستہ صورت پیدا ہو سکے۔

جواب:-

آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی سو سائی میں عورتوں کی تعداد کا مردوں سے اتنا کم ہونا کہ اس سے ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہو جائے ایک شادو ناد واقعہ ہے۔ علم میا تعداد مردوں ہی کی کم ہوتی رہتی ہے۔ عورتوں کی تعداد کم ہونے کے وجہ درہ نہیں ہیں جو مردوں کی تعداد کم ہونے کے ہیں۔ عورتوں اگر کم ہوں گی تو اس وجہ سے کہ صفتِ انسانیت کی پیدائش ہی صفتِ ذکور سے کم ہو۔ اور ایسا ہونا اول تو شادو ناد ہے۔ اور اگر ہبھی تو عورتوں کی اتنی کم پیدائش نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہو اور اسے حل کرنے کے لیے قوانین کی ضرورت پیش آئے۔ بیوہ اور مُطلقة عورتوں کی شادی کے روایج سے یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے۔

دوسری بات جو آپ نے سمجھی ہے وہ قرآن کے صحیح مرکظا العد پر منی نہیں ہے۔ اسلام کے کسی دوسری بھی تعدد ازدواج ممنوع نہ تھا، اور کوئی خاص قدر ایسا نہیں آیا کہ اس ممانعت کو کسی مصلحت کی بنیا پر رفع کر کے پیغام جائز کیا گیا ہو۔ دراصل تعدد ازدواج ہر زمانے میں تمام انبیاء کی شریعتوں میں جائز رہا ہے اور مغربِ چاہیت کی سو سائی میں بھی یہ جائز اور راجح تھا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ کرام بھی اور خود بنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر مانل تھے۔ قرآن میں کوئی آیتِ الیٰ نہیں ہے جس سے یہ شہر کی جاسکتا ہو کہ اس آیت کے نزول سے پہلے تعدد ازدواج ناجائز تھا اور اس آیت نے اگر اسے جائز کیا۔ آپ کے علم میں کسی کوئی آیت ہو تو اس کا حوالہ میں۔

حوالاً :-

آپ مجھے معاف فرمائیں اگر میں یہ عرض کر دیں کہ آپ
کے جواب سے تشقی نہیں ہوئی۔ میری گذالش عرف
اتسی تھی کہ اگر کسی معاشرے میں عورتوں کی تعداد
مردوں سے کم ہو جائے تو کیا اس صورت میں
حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ
شادیوں پر پابندی عائد کر سکے؟ آپ نے فرمایا ہے
کہ ایسا شاذ نادر ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا سوال بھی
اسی شاذ صورت حال سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو
معلوم ہو گا کہ اس وقت پاکستان میں مردم شماری کی رو
سے عورتیں مردوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اب کی حکومت
کوئی ایسا قانون بناسکتی ہے کہ جب تک یہ صورت حال
قام رہے، ایک سے زیادہ شادیوں کی ممانعت ہو
جائے!

میں نے عرض کیا تھا کہ تعداد از دارج کی اجازت کا مطلب
خالی یہ ہے کہ اس زمانے میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دھوتِ حق میں صروف تھے، تو سالہاں کے جہاد کی
دہر سے بیوہ عورتوں اور تمیم بچوں کا سکر حل کرنا پڑا،
اوہ اس کی صورت یہ تجویز کی گئی کہ ایک سے زیادہ شادیوں

کی اجازت دے دی جائے۔ جس مقام پر اجازت دی گئی ہے
اس سے قبل جماد و قتال ہی کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح میں نے فقط
یا صحیح یا استنباط کیا ہے کہ یہ اجازت نہ صورت حالات کے لیے
ہی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ استنباط فقط بھی ہے اور جیسا کہ آپ نے
فرمایا ہے کہ یہ قرآن کے صحیح مطابع پر مبنی نہیں تو اس سے بہت
کریمی بھی کچھ سوچا جاسکتا ہے کہ درود دین میں اندھہ چار چار
نکاح اسی صورت میں کیے جاسکتے ہیں، جبکہ معاشرے میں
عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اگر ان کی
تعداد متعاقبتہ زیادہ نہ ہو یا مردوں کے مساوی ہو، تو اس سے
ذمہ انٹھنے کی ضرورت ہے؟

جواب:-

پاکستان کی مردم شماری میں عورتوں کی تعداد کا مردوں سے کم پایا جانا اس
بات کی وجہ نہیں ہے کہ فی الواقع ہمارے ہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم
ہے۔ بلکہ اس میں ہمارے ہاں کے رسم و رواج کا بڑا دخل ہے جس کی بنیاض
وگ اپنے گھر کی عورتوں کا اندرج کرانے سے پر ہیز کرتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی
کی آہادی میں چدراکو کا فرق ہو جیسی تو اس سے کوئی ایسا معاشرتی مسئلہ پیدا نہیں
ہوتا جس کے لیے تعدد ازدواج پر پائیدی عائدگرنے کی ضرورت پیش آئے۔
یہ مسئلہ بیوہ اور مُطلقة عورتوں کے نکاح ثانی سے حل ہو جاتا ہے اور بالفرض
اگر کوئی بہت ہی غیر معمولی کمی واقع ہو جائے تو عارضی طور پر کچھ مدت کے

یہیے پابندی عائد کرنے بھی جائز ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس پابندی کا اصل محکم
یہی مسئلہ ہو۔ لیکن اس بات کو چھپانے کی آخر کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں
تعدد ازدواج پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت داصل اس بنا پر محسوس نہیں کی
گئی ہے بلکہ اس کا محکم یہ مغربی تفہیل ہے کہ تعدد ازدواج بجائے خود ایک برابر
ہے اور اندر دئے قانون یک زوجی ہی کو رواج مطلوب ہے۔ یہ محکم ہمارے
نزدیک سخت ہے بل اعتراف ہے اور اس کی جڑ کاشاہی ضروری سمجھتے ہیں۔

میں نے پہلے بھی سمجھا تھا اور اب پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ قرآن میں کوئی
آیت تعدد ازدواج کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی ہے۔ تعدد ازدواج پر
کے جائز چلا آرہا تھا اور سورہ نسا کی آیت نمبر ۲ کے تعلق سے پہلے خود بنی اہل
اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین ازدواج مُطہرات موجود تھیں۔ نیز صحابہ کرام میں بھی
بہت نے اصحاب تھے جن کے ہاں ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ سورہ نسا
کی مذکورہ آیت اس جائز فعل کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ اس
غرض کے لیے آئی تھی کہ جنگِ احمد میں بہت سے صحابہ کے شہید ہو جانے اور
بہت سے بچوں کے قیام ہو جانے سے فوری طور پر چو معاشرتی مسئلہ پیدا ہوا تھا
اسے حل کرنے کی صورت مسلمانوں کو یہ تباہی گئی کہ اگر قسم تباہی کے ساتھ دیے
انصاف نہیں کر سکتے تو دودو، تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کر کے ان تباہیوں
کو اپنی سر پرستی میں لے لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعدد ازدواج صرف
لیے ہی مسائل پیش آنے کی صورت میں جائز ہے۔ آخر تیرہ چونہ سورہ سے
ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے۔ اس سے پہلے کب یہ سوال پیدا ہوا تھا

کہ تعلیم دار اور مجاز کیا جائز مخصوص حالات کے ساتھ شرط ہے؟ یہ طرز فکر تو ہمارے ہاں مغرب کے غلبے سے پیدا ہوا ہے۔

(ترجمان القرآن، مئی ۱۹۷۳ء)

تو ام متحد الجسم لڑکیوں کا نکاح

اذیل میں جس سوال کا جواب درج کیا جا رہا ہے اس کی بیانیہ پر کمی سال سے ایک گروہ مصنف کے خلاف یہ پروپگنڈہ کر رہا ہے کہ اس نے جمع بین الاخذین کو حلال کر دیا ہے۔ اب ہر شخص اسے خود پڑھ کر رائے قائم کر سکتا ہے کہ اس افتراء کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ دو بھائیوں یاد و بہنوں کا متحد الجسم ہونا کوئی ناممکن واقعہ نہیں ہے۔ (دسمبر ۱۹۵۲ء کے ریڈیڈ ڈاٹجسٹ میں سیام کے متحد الجسم بھائیوں کا قصرہ ملاحظہ فرمایا جائے)

سوال:-

مندرجہ ذیل مطود بغرض جواب اسال ہیں۔ کسی حقائق کے دریے یعنی کرمنوں فرمائیں۔

بھادلپور میں دو تو ام لڑکیاں متحد الجسم ہیں۔ یعنی جس وقت وہ پیدا ہوئیں تو ان کے کندھے، پہلو، کوئی ہے کی ہدیتی تک آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اور کسی طرح سے ان کو جدا نہیں کیا جاسکت۔

تھا۔ اپنی پیدائش سے اُب جوان ہونے تک وہ ایک ساتھ چوتھی بھرتی ہیں۔ ان کو بھوک ایک ہری وقت بھتی ہے۔ پیشاب پاخانہ کی حاجت ایک ہری وقت بھرتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی عارضہ لاحق ہو تو دوسری بھی اسی مرض میں بتلا ہو جاتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اُن کا نکاح ایک روز سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ نیز لگر دنوں میکر وقت ایک روز کے نکاح میں آسکتی ہیں تو اس کے لیے شرعی دلیل کیا ہے؟

معاصی علماء نہ ایک روز سے نکاح کی اجازت دیتے ہیں اور نہ دو سے۔ ایک روز سے ان دنوں کا نکاح قرآن کی اس آیت کی رو سے درست نہیں جس میں بتایا گی ہے کہ دو حقیقی بہنیں یہیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔ وَإِنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا فَلَّ مَلْفُ د اس حکم کو بیمار بنائے اگر دو مردوں کے نکاح میں ان دو تحد المسمیہ دونوں کو روزے دیا گیا تو مندرجہ ذیل دشواریاں میں ہیں جن کو دیکھ کر علماء نے سکوت اختیار کر لیا ہے۔ ششہ:

۱۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ایک مرد اپنی منکوسر نامزد بیوی تک ہی اپنے صرفی تعلقاً ہے کو محدود کر سکے گا اور دوسری تحد المسمیہ عورت سے جو اس کے نکاح میں نہیں ہے تفریخ نہ کرے گا۔

۲۔ یہ دوسری عورت جو اپنی بہن سے تحد المسمیہ ہونے کے ساتھ متعدد المزاج بھی ہے زوجی تعلق کے وقت متاثر نہ ہوگی۔

۳۔ دو مردوں سے الیسا نکاح جس میں دو نوں عورتیں رصنفی تعلقات

کے وقت، قاتوہ ہوتی ہوں، ان کی حیا بمحروم ہوتی ہو، ان میں تباہ
بندیات پیدا ہوتے ہوں، کیا نکاح اس روح کے منافی نہیں جس
میں تباہیا گیا ہے۔ وجہل بینکہ مودۃ (الردم) و جعل
منہا لیکن الیف (اعراف)

م۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد اندرالش فسل ہے احمد والدین اور مولود
میں شفقت بھی ہے۔ درودوں کا یہ نکاح اس تعلق پر کھڑا چلاتا ہے۔
اور بھی مفاسد ہیں جن کے بیان کو یہاں نظر انداز کیا جاتا ہے۔
مذاہ کرم شریعت کی روشنی میں اس سوال کو حل کیجئے تاکہ یہ تذبذب
مدد ہو۔ ان عورتوں کے والدین ان کا نکاح کر سکیں۔ اور اس فتنہ کا
سدت پاب ہو۔ جو جوان ہونے کی وجہ سے ان کو لاحق ہے۔

جواب:-

ان دونوں لڑکیوں کے معاشرے میں چار صورتیں ممکن ہیں۔

ایک یہ کہ دونوں کا نکاح دو الگ شخصوں سے ہو۔
دوسری یہ کہ ان میں کسی ایک کا نکاح ایک شخص سے کیا جائے اور دوسری
مردم رکھی جائے۔

تیسرا یہ کہ دونوں کا نکاح ایک ہی شخص سے کر دیا جائے۔

چوتھی یہ کہ دونوں ہمیشہ نکاح سے خردم رکھی جائے۔

ان میں سے پہلی دو صورتیں تو ایسی صریح ناجائز، غیر معقول اور ناقابل عمل ہیں
کہ ان کے خلاف کسی استدلال کی حاجت نہیں۔ اب رہ جاتی ہیں آخری وجہ

صود تیں۔ یہ دنوں قابلِ عمل میں۔ مگر ایک صورت کے سبق مقامی خلاف کہتے
ہیں کہ یہ چونکہ جمع بین الاختین کی صورت ہے پھرے قرآن میں حرام قرار دیا
گیا ہے، اس لیے لامحالہ آفری صورت پر ہی عمل کرنا ہو گا۔ نہایہر علماء کی یہ بات
یقین معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ دنوں لڑکیاں تو اُنہیں ہیں اور قرآن کا یہ حکم صاف
اور صریح ہے کہ دو بیہوں کو بیک وقت نکاح میں ناجم جع کرنا حرام ہے۔ لیکن اس
پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ فلم نہیں ہے کہ ان رٹکیوں کو دالی جوڑ پر
بیجور کیا جائے اور یہ ہلکیتہ کے لیے نکاح سے خردم رہیں؟ اور کیا قرآن کا
یہ حکم واقعی اس مخصوص اور نادر صورت حال کے لیے ہے جس میں یہ دلوں
لڑکیاں پیدا اُشتی طور پر مبتلا ہیں؟

میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اکا یہ فرمان اس مخصوص حالت کے لیے نہیں
ہے بلکہ اس عام حالت کے لیے ہے جس میں دو بیہوں کے الگ الگ مستقل وجود
ہوتے ہیں، اور وہ ایک شخص کے جمع کرنے سے ہی بیک وقت ایک نکاح
میں جمع ہو سکتی ہیں ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدة یہ ہے کہ وہ عام حالت کے
لیے حکم بیان کرتا ہے۔ اور مخصوص، شاذ اور نادر الوقوع یا غیر الواقع علاط
کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح کے حالات سے اگر سابقہ پیش آجائے تو تفہم کا
تعاضد یہ ہے کہ عام حکم کو ان پر جوں کا توں چسپاں کرنے کے بجائے صورت
حکم کو چھوڑ کر مقصد حکم کو مناسب طریقے سے پورا کیا جائے۔

اس کی تفسیر یہ ہے کہ شارع نے رذے کے لیے یہ الفاظ صریح یہ حکم دیا
ہے کہ طور عبارت کے ساتھ اس کو شرطی کیا جائے اور رات کا آغاز ہوتے ہی

افظار کر لیا جائے۔ وَكُلُوا وَامْشُرُوا حَتَّىٰ سَبَبِينَ نَكْمَ الْخَيْطِ
الْأَبْيَعِنْ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اتَّمُوا الصَّيْمَ
إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ زِينَ كَمْ عَلَاقَوْنَ كَمْ يَلِيْهِ جِنْ مِنْ رَاتِكُمْ بَعْدِ
چوبیں گھنٹوں کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اور حکم کو اس شکل میں بیان کرنے
کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی آبادی کا بیشتر حصہ انہی علاقوں میں رہتا ہے۔ اب
ایک شخص سخت غلطی کرے گا اگر اس حکم کو ان مخصوص حالات پر چون کا جوں
چپاں کر دے گا جو قطب شمال کے قریب علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں
رات اور دن کا طول کمی کی مہینوں تک متعدد ہو جاتا ہے۔ ایسے علاقوں کے
لیے یہ کہنا کہ دہاں بھی طور پر فجر کے ساتھ شروع کیا جائے اور رات آنے
پر کھولا جائے، یا یہ کہ دہاں سرے سے ردہ رکھا ہی نہ جائے، کسی طرح صحیح
نہ ہوگا۔ تفہیم کا یہ تقاضا ہے کہ ایسے مقامات پر صورت حکم کو چھوڑ کر کسی دوسری
مناسب صورت سے حکم کا مشاپورا کیا جائے۔ مثلاً یہ کہ رضویں کے لیے
ایسے اوقات مقرر کر لیے جائیں جو زمین کی بیشتر آبادی کے انتہا صوم سے
ملتے چلتے ہوں۔

یہی صورت میرے نزدیک ان دردش کبوں کے معاملہ میں بھی اختیار کرنے
چاہیے جن کے جسم آپس میں بڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ناح دد الگ شخصوں
سے کرنے یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنے کی تجویز یہی غلط ہی۔ ان کی بجائے
ہونا یہ چاہیے کہ ان تجمعوا میں الْخَتَّینَ کے ظاہر کو چھوڑ کر صرف
اس کے مشاکو پورا کیا جائے۔ حکم کا مشایہ ہے کہ دردشوں کو سوکنپے کی

رتابت میں بدل کرنے سے پرے نیز کیا جائے۔ یہاں چونکہ المی صورت حال
قد پیش ہے کہ دنوں کا نکاح یا تو ایک ہی شخص سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی سے
نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ فیصلہ انہی دنوں میں پر چھوڑ دیا جائے کہ آیادہ
بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جانے پر راضی ہیں یا دامی تجزہ کو ترجیح دیتی
ہیں۔ اگر وہ پہلی صورت کو خود قبول کر لیں تو ان کا نکاح کسی ایسے شخص سے ہے کہ دیا
جائے جو انہیں پسند کرے۔ لہر اگر وہ دوسری صورت ہی کو ترجیح دیں تو پھر
اس عالم کی ذمہ داری سے ہم بھی بھی ہیں اور خدا کا قانون بھی۔

اعتراف کیا جاسکتا ہے کہ بالفرض یہ دنوں ایک شخص کے نکاح میں دے
دی جائیں، اور بعد میں وہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو کیا ہوگا
میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں دنوں اس سے جدا ہو جائیں گی۔ ایک اس لیے
کہ اسے طلاق دی گئی اور دوسری اس لیے کہ وہ اس سے کوئی انتہا نہیں کر سکتا۔

جب تک کہ خوبیت اجنبيہ کے ہرم کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اسے
اپنے گھر پر بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ملکہ لڑکی کو اپنے گھر رہنے پر مجبور کرنے
کا اے حق نہیں ہے۔ اور غیر مملوکہ لڑکی بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔ لہذا جب وہ
ان میں سے ایک کو طلاق دے گا تو دوسری کو خلُع کے مطابق کا جائز حق حاصل
ہو جائے گا۔ اگر وہ خلُع نہ کرے تو عدالت کا فرض ہے کہ اے خلُع پر مجبور کرے
یہ لڑکیاں پیدا اللہ ہی کی وجہ سے الیسی ہیں کہ کوئی شخص نہ ان میں سے کسی ایک
کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی ایک کو طلاق دے سکتا ہے۔ ان کا نکاح
بھی ایک ساتھ ہو گا اور طلاق بھی۔ خذلما ماعندهی واللہ اعلم

در ترجمان القرآن . صفحہ ۱۳۷ . نومبر ۱۹۵۳ء

طلاق قبل از نکاح

سوال :-

میرے ایک غیر شادی شدہ دوست نے کسی وقت جذبہ کے تحت ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ "اگر میں کسی عورت سے بھی شادی کر دی تو اس پر میں طلاق ہے" اب وہ اس قول پر سخت نادم ہے اور چاہتا ہے کہ شادی کرے۔ عمار یہ کہتے ہیں کہ جو نبی وہ شادی کرے گا عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس یہے ہر بھرا ب شادی کی گوش کرنے والے ایک بے کار اور عیب نہ فعل ہے۔ بلکہ وہ کرم تھا میں کہ اس مصیبت خیز اگبھن سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟

جواب :-

بلکہ شیخ فتحیہ کی رائے یہی ہے کہ الیسی صورت میں جب عورت سے بھی اس کا نکاح ہو گا اس پر طلاق دار در ہو جائے گی۔ لیکن تمام ائمہ و فقہاء کا اس بارے میں آتفاق نہیں ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ طلاق کا حق نکاح کے بعد پیدا ہوتا ہے زکہ نکاح سے پہلے۔ اگر کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ وہ آئندہ جب عورت سے بھی نکاح کرے اس کو طلاق ہے تو یہ لغو اور

غیر موثر بات ہے۔ اس سے کوئی قانونی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ یہ راستے حضرت علیؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت جابرؓ بن عبد اللہ، حضرت ابن عباسؓ، اور حضرت عائشہؓ سے بھی متفق ہے۔ اور اس راستے کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ لا طلاق الا من بعد نکاح (طلاق نہیں ہے مگر نکاح کے بعد) اہم بحث کی راستے ہے کہ اگر کسی خاص عورت یا خاص قبیلے یا خاص خاندان کی عورتوں کے پارے میں کوئی ایسی بات کہے تہ تو طلاق لازم آجائے گی، لیکن مطلق تمام عورتوں کے پارے میں یہ بات کبھی جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ کیونکہ پہلی صورت میں تو یہ امکان باقی رہتا ہے کہ مرد اس عورت یا اُس قبیلے کی عورت کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کر سکے۔ لیکن دوسری صورت میں ترک مفت کی قیامت قدم آتی ہے۔ اور یہ ایک حلال چیز کو اپنے اور پر مطلق احرام کر لینے کا ہم منع ہے۔

یہ مسئلہ پر مزید تفصیل بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر سورہ احزاب صفحہ ۴۳۔

ر ترجمان القرآن۔ جمادی الاولی ۱۴۰۵ھ۔ جنوبری ۱۹۸۵ء

حدت خلع

سوال:-

آپ کی تصنیف "تفہیم القرآن" جلد اول صفحہ بقرہ ص ۱۶۹ میں لکھا ہوا ہے کہ "خنع کی صورت میں حدت بردن جیسی ہے ہے۔ دلائل

یہ حدت ہے ہی نہیں بھری حکم بعض ائمہ رحمہ کے لیے دیا گیا ہے ॥ (۱)

اب قابلِ دریافت یہ امر ہے کہ آپ نے اس مسئلہ کی سند وغیرہ نہیں بھی۔ حالانکہ یہ قول غیوم الایہ اور اقوالِ تحقیقین اور قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے ۔

(۱) فی الفتہ، روی عبد الزاق مرفوعاً الخدم تطہیقة۔

(۲) دروی الدارقطنی رابن عدی امنہ جعل النبی الخلل تطہیقة ۔

(۳) دروی مالک عن ابن عمر ۴ عدۃ المبتلاة عدۃ المطلقة ۔

ایک الہودی روایت ہے کہ عدۃ حیضۃ، لیکن یہ قول تعرف من الرؤاۃ پر محوال کیا گیا ہے اور نص کے بھی خلاف ہے کہ نص میں ہے وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَوَبَّعُنَّ عَلَيْنِ سِهْنَ مَلَثَةٌ قروۃ۔ مہربانی فرمادی احادیث نبویہ میں تطبیق دیتے ہوئے اپنے الہاق پڑ رکھتے ہوئے اور محدثین کے اقوال کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کی پوری تحقیق مدلل بجواہِ اکتب معتبرہ تحریر فرمائیں تاکہ باعثِ اطمینان ہو سکے ۔

جواب ۱

مختلفہ کی عدت کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ فتحہار کی ایک جماعت کے مطلقاً کی عدت کے ماتنہ قرار درستی ہے۔ اور ایک معتقد بہ جماعت اسے

ایک حیثیت تک محدود رکھتی ہے۔ اس دوسرے سلسلہ کی تائید ہیں متعدد احادیث ہیں۔ نبی اور طبرانی نے ریح بنت معوذ کی پرروايت نقل کی ہے کہ ثابت ابن قیس کی بیوی کے مقدمہ خلیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ

ان متعدد حیضۃ واحدۃ و تتحقق جا علما -

ابوداؤ در ترمذی نے ابن جباس رضی کی روايت نقل کی ہے کہ انہی زوجہ ثابت بن قیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تعدد بحیضۃ -

نیز ترمذی، نبی اور ابن ماجہ نے ریح بنت معوذ کی ایک اور روايت بھی اسی مضمون کی نقل کی ہے۔ ابن الجیشیہ نے ابن عثیمین کے حوالہ سے حضرت عثمان رضی کا بھی ایک فیصلہ اسی مضمون پر مشتمل نقل کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بحده ہے کہ پہلے ابن عثیمین کی حدت کے معاملہ میں تین حیض کے قابل تھے، حضرت عثمان رضی کے اس فیصلہ کے بعد انہوں نے اپنی طائفے بدل دی اور ایک حیض کا فتوی دینے لگے۔ اسی طرح ابن الجیشیہ نے ابن جباس رضی کا یہ فتوی نقل کیا ہے کہ عدتها حیضۃ۔ ابن ماجہ نے ریح بنت معوذ بن عفراو کے حوالہ سے حضرت عثمان رضی کے ذکر وہ ہالافیصلہ کی جو روايت نقل کی ہے اس میں حضرت عثمان رضی کا یہ قول بھی موجود ہے کہ انہا اقبع فی ذالک قضا و دسوی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم -

امید ہے کہ ان حوالوں سے آپ کا اطمینان ہو جائے گا -

ترجمان القرآن۔ محمد صفر شمسی۔ الموبہ ۱۹۵۶ء

ضبطِ ولادت

سوال :-

آج کل ضبطِ ولادت کو خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان جدید کے
نتیجے مقبول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے حق معاشی
دلائی کے علاوہ بعض لوگوں کی طرف سے مذہبی دلائی بھی فراہم کیے
جا رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہا جا رہا ہے کہ حدیث میں عزل کی اجازت ہے
اور برختوں کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں اب
حکومت کی طرف سے مردوں کو بانجھ بنانے کی سہولتیں بھی بہم بخپا پی
جا رہی ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے ٹیکے ایجاد ہو رہے ہیں جن سے
مرد کا جو ہر چیز اس قابل نہیں رہتا کہ وہ افزائش نسل کا ذریعہ
بن سکے لیکن جنسی لذت پر قرار رہتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک
یہ طریقہ بھی شرعاً قابل اعتراض نہیں، اور نہ یہ قتل اولاد یا اس قاطع جمل
ہی کے ضمن میں آسکتا ہے۔

براء کرم اس بارے میں تبایہ کر آپ کے نزدیک اسلام
اس طرزِ عمل کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟

جواب :-

ضبطِ ولادت کے موضوع پر میں اب سے کئی سال پہلے ایک کتاب
”اسلام اور ضبطِ ولادت“ لکھ چکا ہوں جس میں دینی، معاشی اور معاشرتی

نقطہ نظر سے اس مسئلے کے مارے پہلوں پر بحث موجود ہے۔ اب اس کا جدید ایڈ لشتن بھی شائع ہو چکا ہے۔

آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ عزل کے متعلق جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور اس کے جواب میں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا تعلق صرف انفرادی ضروریات اور استثنائی حالات سے تھا۔ ضبط ولادت کی کوئی عام دعوت و تحریک ہرگز پیش نظر نہ تھی۔ نہ ایسی کسی تحریک کا خصوص فلسفہ تھا جو عام میں پھیلا بایا جا رہا ہو، نہ ایسی تدابیر و سیع پیغام نے پہ مرد و عورت کو بتائی جا سہی تھیں کہ وہ ہاہم مہاشرت کرنے کے باوجود استقرارِ حل کو روک سکیں، اور نہ حل کو روکنے والی دوسری اور آلات ہر کس دنکس کی دست رس تک پہنچانے والی ہے تھے۔ عزل کی اجازت میں جو حضور روایات مروی ہیں ان کی حقیقت لبس یہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنے ذاتی حالات یا مجبوریاں بیان کیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلے منے رکھ کر کوئی مناسب جواب دے دیا۔ اس طرح کے جو جوابات بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہیں ان سے اگر عزل کا جواز نکلتا بھی ہے تو وہ ہرگز ضبط ولادت کی اس کوئی تحریک کے حق میں استعمال نہیں کیا جاسکتا جس کی پشت پر ایک ہاتھ اعدہ خالص مادہ پرستا نہ اور اباحت پسندانہ فلسفہ کا ر فرمائے۔ ایسی کوئی تحریک اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھتی تو مجھے تھیں ہے کہ آپ اس پر لعنت بھیجئے اور اس کے خلاف دلیا ہی جہاد کرتے جیسا

شرک و بہرعت و پرستی کے خلاف آپ نے کیا۔ میں ہر اس شخص کو جو عزل سے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا غلط استعمال کر کے انہیں موجودہ تحریک کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے خدا سے ڈرنا ہوں اور مشورہ دیتا ہوں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس جماعت سے باز رہے۔ منزب کی بجائے خدا تہذیب و فکر کی پیروی اگر کسی کو کہنے ہو تو یہ صی طرح اسے دین مغرب سمجھ کر یہ اختیار کرے۔ آخر دہ اسے میں خدا در رسول کی تدبیم قرار دے کر خدا کا مزید غصب مول لینے کی کوشش کیوں کرتا ہے۔

اسلام جس طرح ضبط و ادلت کی علوی تحریک کو رد انہیں رکھتا، اسی طرح وہ قصہ بانجھ نہیں کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یہ کہنا کہ جان بوجو کر اپنے آپ کو بانجھ کر لینا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ کہنا غلط ہے کہ آدمی کا خود کشی کر لینا جائز ہے: مراصل اس طرح کی باقی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے نزدیک آدمی اپنے جسم اور اپنی قوتوں کا خود مالک ہے اور اپنے جسم اور اس کی قوتوں کا خود مالک ہے اور اپنے جسم اور اس کی قوتوں کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے کر لینے کا حق رکھتا ہے۔ اسی غلط خیال کی وجہ سے جاپانی خود کشی کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی غلط خیال کی وجہ سے بعض جو لوگ اپنے ہاتھ یا پاؤں یا زبان بیکار کر لیتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو خدا کا ملک کہتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ یہ جسم اور اس کی قوتیں خدا کا عطا ہے اور اس کی امانت ہیں اس کے نزدیک اپنے آپ کو بانجھ کر لینا ویسا ہی گناہ ہے جیسا کسی مدمرے انسان کو زبردستی بانجھ کر دینا یا کسی کی بینائی خدالی کر دینا گناہ ہے۔

ضبطِ ولادت اور وصیۃ الرَّعیانِ

سوال :

دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے آج اسلام کی حل پیش کرتا ہے؟
برٹھ کنٹروں (پیدائش روکنے) کے لیے دواں کا استعمال، فیصل
پلانگ وغیرہ کو کیا آج بھی غیر شرعی قرار دے کر منوع قرار دیا جائے
گا؟ کیا ایک مسلمان زندگی میں اپنی آنکھیں خلیہ کر سکتا ہے کہ موت کے
بعد کسی مرغی کے لیے استعمال ہو سکیں؟ کیا یہ قربانی گناہ کو نہ ہوگی اور
قیامت میں شخص اندر ہاتوندا ٹھنڈے گا؟

جواب :-

دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے اسلام صرف ایک ہی حل پیش کرتا ہے
اور وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے مذق کے جو فرائع پیدا کیے ہیں ان کو زیادہ
سے زیادہ بڑھانے اور استعمال کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جو فرائع
اب تک مخفی ہیں ان کو دریافت کرنے کی پیغمبری کی جاتی رہے۔ آبادی
روکنے کی ہر کوشش خواہ وہ قتل اولاد ہو یا استغاثہ حمل یا منع حمل، فلسط اور
بے حد تباہ کُن ہے۔ ضبطِ ولادت کی تحریک کے چار نتائج ایسے ہیں جن
کو روشنایا ہونے سے کسی طرح نہیں روکا جائے گا۔

۱۔ زنا کی کثرت۔

۲۔ انسان کے اندر خود غرضی اور اپنا معیار زندگی بڑھانے کی خواہش کا اس

حد تک ترقی کر جانا کہ اسے اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے قیم بجا یوں اور اپنے دوسرے مقام امداد رشتہ داروں کا وجود بھی ناگوار گزرنے لے گے۔ کیونکہ اپنے دوسرے مقام امداد رشتہ داروں کا وجود بھی ناگوار گزرنے لے گے۔ جو آدمی اپنی رفتگی میں خود اپنی اولاد کو شرکیں کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ دوسرے کو جو یکے شرکیں کر سکے گا؟

۲۔ آبادی کے اضفے کا کم سے کم مطلوب معیار بھی جو ایک قوم کو زندہ رکھنے کے لیے نگزیر ہے برقرار نہ رہنا۔ اس لیے کہ جب یہ فیصلہ کرنے والے افراد ہوں گے کہ دہ کتنے بچے پیدا کریں اور کتنے نہ کریں، اور اس فیصلہ کا مدار اس بات پر ہو گا کہ وہ اپنے معیار زندگی کو نئے بچوں کی آمد کی وجہ سے سگرنے نہ دیں، تو بالآخر اتنے بچے بھی پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ جتنے ایک قوم کو اپنی قومی آبادی برقرار رکھنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں کہبھی کبھی نوبت یہ بھی آجاتی ہے کہ شرح پذیر الش شرع امورات سے کم تر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ نتیجہ فرانس دیکھو چکا ہے، حتیٰ کہ اس کو ”بچے زیادہ پیدا کرو“ کی تحریک چلانی پڑی اور انعامات کے ذریعہ سے اس کی مہلت افزائی کرنے کی ضرورت پیش آگئی۔

۳۔ قومی دفاع کا کمزور ہو جانا۔ یہ نتیجہ خصوصی طور پر ایک ایسی قوم کے لیے حد خطرناک ہے جو اپنے سے کئی گنی دیا وہ دشمن آبادی میں گھری ہوئی ہے۔ پاکستان کے تعلقات ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ جیسے کچھ ہیں سب کو معلوم ہے۔ اور امریکہ کی دوستی نے کیونکہ مالک سے بھی اس کے تعلقات فراب کر دیئے ہیں۔ بجٹیتیت مجموعی ہندوستان، چین، روس اور

افغانستان کی آہادی ہم سے تیرہ گنی ہے۔ ان حالات میں لڑنے کے قابل افراد کی تعداد گھٹانا جیسی عقلمندی ہے اسے ایک صاحب عقل آدمی خود سوچ سمجھتا ہے ۔

آنکھوں کے علیے کامعاہدہ صرف آنکھوں تک ہی محدود نہیں رہتا۔ بہت سے دوسرا مخصوصاً بھی مرليخیوں کے کام آئتے ہیں اور ان کے دوسرا مفید استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مدد و اذانہ اگر کھول دیا جائے تو مسلمان کا قبر میں دفن ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا سارا جسم ہی چند سے میں تقسیم ہو کر رہے گا۔ اسلامی تکالیف یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم کا ہالک نہیں ہے۔ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مرنے سے پہلے اپنے جسم کو تقسیم کرنے یا چند میں دینے کی درست کردے۔ جسم اس وقت تک اس کے تصرف میں ہے جب تک وہ اس سبب میں خود رہتا ہے۔ اس کے نعل جانے کے بعد اس جسم پر اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس معاملے میں اس کی درست نافذ ہو۔ اسلامی احکام کی رو سے یہ زندہ انسانوں کا فرض ہے کہ اس کا جسم احترام کے ساتھ دفن کر دیں۔

اسلام نے انسانی لاش کی حرمت کا جو حکم دیا ہے وہ حد اصل انسانی جان کی حرمت کا ایک لازمہ ہے۔ ایک دفعہ اگر انسانی لاش کا احترام ختم ہو جائے تو بات ہر اس حد تک محدود نہ رہے گی کہ مردہ انسانوں کے بعض کا رآمد ایکراز نہ انسانوں کے علاج میں استعمال کیے جائے سمجھیں، بلکہ رفتہ رفتہ انسانی جسم کی چھپی سے صابن بھی بننے سمجھیں گے (جب یہ کہ فی الواقع جنگ عظیم نمبر ۲ کے زمانے میں جرمنوں نے بنائے تھے) انسانی کھال کو اٹا کر اس کو دباغت دینے کی کوشش

کی جائے گی تاکہ اس کے جو تے یا سوت کیں، یا منی پس بنائے جاسکیں۔
رضاخانہ یہ تجربہ بھی چند سال قبل مدرس کی ایک غیری کرچی ہے۔ انسان کی
ہدایوں اور آنٹوں اور دوسری چیزوں کو استعمال کرنے کی بھی فکر کی جائے گی،
 حتیٰ کہ اس کے بعد ایک مرتبہ انسان پھر اس دوہرہ حشت کی طرف پڑت جائے
 گا جب آدمی کا گوشت کھاتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک دفعہ مردہ انسان
 کے اعضا نکال کر علاج میں استعمال کرنا جائز قرار دے دیا جائے تو پھر کس جگہ
 حد پندھی کر کے آپ اسی جسم کے دوسرے "مفید" استعمالات کو روک سکیں
 گے اور کس منطق سے اس بندش کو معقول ثابت کریں گے۔

ترجمان القرآن۔ جنوری ۱۹۶۲ء

کفارہ جرم اور مسئلہ کفارت

سوال ۱۔

کیا اگر کسی گناہ (مشائنا) کی شرعاً ایک شخص کو اسلامی حکومت
 کی جانب سے مل جائے تو وہ آخرت میں اس گناہ کی مstras سے بُری ہو
 جائے گا یا کہ نہیں؟

(۲) کیا حدیث یا قرآن میں کوئی اصولی ہدایت اس امر کی موجود
 ہے کہ ہر شخص اپنی قوم رذات میں ہی شادی کرے۔ واضح رہے
 کہ میں کفارت کا اس معنی میں تو قابل ہوں کہ فریقین میں مناسبت

ہونی چاہیے، غیر ضروری معیار کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔

جواب :-

(۱) شرعی سزا جاری ہونے کے بعد آنحضرت میں آدمی کی معافی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ آدمی نے اس کے ساتھ خدا سے تو بھی کی ہو اور اپنے نفس کی اصلاح کر لی ہو۔ لیکن اگر بالفرض ایک شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دالا گی، مگر اس نے اپنے گناہ پر اپنے خدا کے سامنے کوئی فیصلہ نہ کیا، بلکہ اُس ادال میں اس شرعاً میت ہی کو کوستار ہا جس نے اس کا ہاتھ کٹا یا ہے، تو خدا کے ہاں اس کے معاف کردیئے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

(۲) قرآن یا حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی قوم میں ہی شادی کرے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کرام کا عمل اس کے خلاف پایا جاتا ہے۔

در ترجمان القرآن۔ فروردی ۱۹۷۱ء

عائی قوانین اور قانون شرعاً

سوال :-

کیا عائی قوانین کے لفاظ کے بعد کوئی شخص اگر شرعاً کے مطابق کسی قسم کی طلاق درے تو وہ راقع ہو جائے گی؟ متذکرہ

صدر قوانین کی رو سے تو طلاق کے نافذ ہونے کے لیے کچھ خاص شرائط عامد کر دی گئی ہیں ۔

جواب :

کسی حکومت کے قوانین سے نہ تو شریعت میں کوئی تزیم ہو سکتی ہے اور نہ وہ شریعت کے قائم مقام بن سکتے ہیں ۔ اس لیے جو طلاق شرعاً قواعد کی رو سے دے دی گئی ہو وہ ہنداللہ اور عند السالمین نافذ ہو جائے گی خواہ ان قوانین کی رو سے وہ نافذ نہ ہو ۔ اور جو طلاق شرعاً قابل لغایت نہیں ہے وہ ہرگز نافذ نہ ہو گی خواہ یہ قوانین اس کو نافذ قرار دیں ۔ اب مسلمانوں کو خود سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے نکاح و طلاق کے معاملات خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے کہ ناچاہتے ہیں یا ان عامل قوانین کے مطابق ۔

(ترجمان القرآن - مئی ۱۹۶۲ء)

منکوحہ کتابیہ کے لیے آزادی عمل کے حدود

ابن کتاب کی جن عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کی اجازت دی گئی ہے ان کے بارے میں قرآن مجید و شرطیں لگاتا ہے ۔ ایک یہ کہ وہ محضات (پاک و امن) ہوں، دوسرے یہ کہ ان سے نکاح کر کے ایک مسلمان خود اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال بیٹھے رہا حظہ ہو سو رہا مائدہ آیت ۵) ان شرائط کی رو سے فاسق و فاجر کتابیات کے ساتھ شاری جائز نہیں ہے ۔ اور یہ دیکھنا

کافر خیلے ہے کہ جس حورت سے دہ شادی کر رہا ہے وہ اس گھر میں، اس کے خاندان میں، اور اس کے بچوں میں ایسے افعالِ رائج کرنے کی وجہ نہ بنے جو اسلام میں حرام ہیں بلاشبہ وہ اسے مذہبِ ترک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کو چرچ جانے سے نہیں روک سکتا۔ مگر اُسے شادی سے پہلے ہی یہ شرط کر لینی چاہئے کہ وہ اس کی زوجیت میں آنے کے بعد شراب، سوار کے گوشت اور دوسرا حرام چیزوں سے اجتناب کرے گی۔ ایسی شرط پہلے ہی طے کر لینے کا اسے حق بھی ہے اور ایسا کہ اس کافر خیلے ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دین کے معاملہ میں سخت تسلیم کرنے والا آدمی ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی اپنی اولاد ان حرام افعال میں بدلنا ہو (اور ظاہر ہے کہ اولاد کا ماں سے متاثر نہ ہونا متوقع نہیں ہو سکتا) تو اس کی ذصہ داری میں وہ بھی شرکیہ ہو گا۔

نكاح بلا مهر

نكاح بلا مهر ہو سکتے ہے، لیکن اسلامی فقہ کی روشنی سے اس طرح کے نکاح میں مہر مشتمل آپ سے آپ لازم آ جاتا ہے۔

اللہ کے حقوق اور والدین کے حقوق

سوال:-

میں ایک سخت نگاش میں عبلا ہوں اور آپ کی رخانی کی ضریب
فسوس کرتا ہوں۔ میں جماعت کا یہہ وقتی کارکن ہوں اور اس وجہ سے
گھر سے دفعہ رہنے پر غیر مجبور ہوں۔ والدین کا شدید اصرار ہے کہ میں ان کے
پاس رہ کر تجارتی کاروبار شروع کروں۔ وہ مجھے ہمارا خطوط بخوبی
رہتے ہیں کہ تم والدین کے حقوق کو تنظر انداز کر رہے ہیں ہو۔ میں اس بارے
میں بھیشہ مشوش رہتا ہوں۔ ایک طرف مجھے والدین کے حقوق کا بہت
احساس ہے، دوسری طرف میں فسوس کرتا ہوں کہ اقسامِ دین کی
جدوجہد کے لیے میرا جماعت کا کارکن بن کر رہا ضروری ہے۔
آپ اس معاملے میں مجھے صحیح مشورہ دیں تاکہ میرا از اند تغیرات سے نچ سکوں
یہ بھی معلوم ہے کہ خیالات کے اختلاف کی وجہ سے گھر میں میری ذہنی
سخت تخلیف کی ہوگی۔ لیکن شرعاً اگر ان کا مطابقہ ولجب التعمیل
ہے تو پھر بہتر ہے کہ میں اس تخلیف کو خوشی سے برداشت کروں
میرے والد صاحب میری ہر بات کو مدد و اعزاز بخایتے ہیں
اوہ میری طرف سے اگر بہت ہی فرمی کے ساتھ جواب بڑھ کیا
جائے تو اسے بھی سنتا گوارا نہیں فرماتے۔

جواب ۔

والدین کی احتجاجت اور دین کی خدمت کے درمیان توازن کا مسئلہ بالعموم ان سب نوجوانوں کے لیے دبجر پلیشانی بناتا ہے جن کے والدین جماعتِ اسلامی اور اس کے مقصد سے ہمدردی نہیں رکھتے۔ میں نے گھوٹا یہ دیکھا ہے کہ ایک بیٹا اگر سرکاری طازمت میں ہو یا کسی اچھے کار و بار میں لگا ہوا ہو تو والدین اس کے ہزاروں میل دور رہنے کو بھی بدداشت کر لیتے ہیں اور اس سے کبھی نہیں کہتے کہ تو طازمت یا روزگار چھوڑ دے اور آگر چاری خدمت کر۔ بیٹے کے اطور اگر فاسقا نہ بھی ہوں تو اعتراض کی زبان کھونے کی ضرورت انہیں بالعموم محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مجید بات ہے کہ اپنے سارے حقوق انہیں صرف اسی وقت یاد آ جاتے ہیں جب کوئی بیٹا اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے حتیٰ کہ اگر جماعت اسے معقول معادنہ دے تب بھی وہ یہی ضد کرتے ہیں کہ بیٹا گھر میں بیٹھ کر ان کے «حقوق» ادا کرے۔ بلکہ حقوق ادا کرنے پر بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کی ہر بات انہیں کشکلتی ہے اور اس کی کسی خدمت سے بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ یہ صورت حال میں ایک مذمت سے دیکھ رہا ہوں اور جماعت کے بعثت نوجوانوں کو اس صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑ رہا ہے۔

میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ہاں فی الواقع کیا صورتِ حال ہے۔ اگر دبی کچھ ہے جو آپ کے بیان سے سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ آپ کے والدین کی زیارتی

ہے۔ آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہیں کرتے رہیں۔ جو کچھ مالی خدمت آپ کے بس میں ہو دہ بھی کرتے رہیں بلکہ اپنے اور پر تخلیق اٹھا کر اپنی مقدرت سے کچھ دیوارہ ہی بھیتھے رہیں۔ اور حسب ضرورت وقتاً فوقتاً ان کے پاس ہو آیا کریں۔ لیکن اگر صورت حال اس سے مختلف ہو اور فی الواقع آپ کے والدین اس بات کے محتاج ہوں کہ آپ کے لیے ان کے پاس رہ کر ہی خدمت کرنا ضروری ہو تو پھر مناسب یہی ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں۔

ترجمان القرآن، جمادی الاول ۱۳۶۵ھ۔ جنوری ۱۹۵۴ء

پرده اور پسند کی شادی

سوال :-

اسلامی پردوے کی رو سے جہاں ہیں جسے شمار خواہد حاصل ہوتے ہیں وہاں دو ایسے نعمانات بھی ہیں جن کا کوئی حل قطع نہیں آتا بجز اس کے کہ صبر و شکر کے مدیحہ جائیں۔

اول یہ کہ ایک تعییر یا فتہ آدمی جس کا ایک خاص ذوق ہے اور جو اپنے دوست غثیب کرنے میں ان سے ایک خاص اخلاق اور ذوق کی توقع رکھتا ہے، فلتر تا اس کا خواہشند ہوتا ہے کہ شادی کے لیے ساتھی بھی اپنی مرمنی سے غثیب کرے۔ لیکن اسلامی پردوے کے ہوتے ہوئے کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی کے لیے اس بات

جنہوں نہیں رہتی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ساتھی چھنے بلکہ اس کے لیے وہ قطعاً دوسروں لیعنی ماں یا خالہ وغیرہ کے دستِ مگر ہوتے ہیں ہماری قوم کی تعلیمی حالت الیسی ہے کہ والدین ہمودا ان پسند اور اولاد تعلیم یافتہ ہوتی ہے اس لیے والدین سے یہ توقع رکھنا کہ موزدیں رشتہ دھونڈ دیں گے ایک عبید توقع ہے ۔ اس صورت حال سے ایک ایسا شخص جو اپنے مسائل خود حل کرنے اور خود سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو سخت مشکل میں پڑ جاتا ہے ۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایک لڑکی جو گھر سے باہر نکلنے کی پابندی ہو وہ کیونکر الیسی وسعت نظر، فراست اور عقل عام کی مالک ہو سکتی ہے کہ بچوں کی بہترین تربیت کر سکے اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے بیدار کر دے، اس کو تواریخ کے معاشرات کا سمجھ علم ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اتنی ہی تعلیم بھی حاصل کرے جتنی ایک بے پردہ لڑکی نے حاصل کی ہوتی ہے تو بھی اس کی ذہنی سطح کم ہو گی کیونکہ اسے اپنے علم کو جملی طور پر پکھنے کا کوئی موقع ہی حاصل نہیں۔ ایسا ہے آپ اس سلسلہ پر دشمنی ڈال کر منون فرمائیں گے ۔

جواب ۔ ۔

آپ نے اسلامی پردازے کی جن فرابیوں کا ذکر کیا ہے اذلاً تو وہ الی مرابیاں نہیں ہیں کہ اس کی بنیاد پر آدمی لاخیل مشکلات میں متلا ہو جائے اور

ثانیاً جماعتِ دینوی میں آخر کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی نہ کوئی خامی یا کمی نہ پائی جاتی ہو۔ لیکن کسی چیز کے مفید یا مضر ہونے کا اس کے صرف ایک یادو پہلوؤں کو سامنے رکھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر اس میں مصلح کو غلبہ حاصل ہے یا مفاسد کو۔ یہی اصول پر دے کے بارے میں اختیار کیا جائے گا۔ اسلامی پرداہ آپ کی رائے میں بھی ہے شمارِ فوائد کا حامل ہے۔ لیکن فقط یہ مشکل کہ اس کی پابندی سے آدمی کو شادی کے لیے اپنی مرضی کے مقابلہ لڑکی منتخب کرنے کی آزادی نہیں مل سکتی، پرداہ کی افادت کو کم یا اس کی پابندی کو ترک کرنے کے لیے درجہ جواز نہیں بن سکتی۔ بلکہ اگر ہر لڑکے کو لڑکی کے انتخاب اور ہر لڑکی کو لڑکے کے انتخاب کی کھلی چھپی دے دی جائے تو اس سے اس قدر قبیح نتائج برآمد ہوں گے کہ ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور پھر خاندانی نظام جو کہ معاشرے کی مضبوطی اور پاکیزگی کا ضامن ہوتا ہے درہم درہم ہو کر رہ جائے گا۔ اور ایک موہومہ مشکل کو حل کرتے کرتے بے شمار حقیقی مشکلات کے دروازے کھل جائیں گے۔

آپ کا یہ خیال کہ ہاپرداہ لڑکی و سوت نظر اور فراست سے بے پرو ہوتی ہے درست نہیں ہے۔ اور اگر اسے بالفرض درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس میں پرداہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک لڑکی ہاپرداہ رہ کر بھی علم و فن میں کمال پیدا کر سکتی ہے اور اس کے مقابے میں پرداہ سے ہاہر ہو کر بھی ایک لڑکی علم و عقل اور فراست و لمبیرت سے کوڑی

روہ سکتی ہے۔ البتہ ہے پر دہ لڑکی کو یہ فو قیت ضرور ہو گی کہ وہ معلومات کے
لمااظہ سے چاہے دیسیں انظر رہو لیکن تعلقات کے لمااظہ سے ان کی نگاہ ہیں
ضرور پہلی جائیں گی۔ ایسی حالت میں اگر موزوں تو یہ رفیقِ چیات کی تلاش
میں کامیابی ہو جی جائے، تب بھی جو نگاہ ہیں وسعت کی عادی ہو چکی ہوں
انہیں سیکھ کر ایک مرکز تک محدود رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہو گا۔

پسند کی شادی میں رکاوٹیں

جواب:-

آپ کا جواب ملا۔ مگر مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے
اُسے بالکل معمولی مسئلہ قرار دیا۔ کامیاب شادی کی تمنا تو ایک جائز خواہش
ہے اور ایسے حالات پیدا کرنا، جن کی وجہ سے ایک شخص کے لیے
انپی پسند کی لڑکی چلنے کا راستہ بند ہو جائے میں انسانی مسترت اور شخصیت
کے ارتقاواد کے لیے مضر بھتا ہوں اور دینِ فطرت کے منافی۔

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ہمارے مرقد جہ طریقے کے مطابق عورت
زیادہ سے زیادہ گھر کی نظم ہوتی ہے اور خادندگی اور اپنی جنسی تسلیم کا
ایک ذریعہ، لیکن دو افراد کے اپنے آپ کو پوری طرح ایک دوسرے
کے حوالے کرنے اور زندگی کے فرائض ایک بارہ کی بجائے خوشی خوشی
پورا کرنا کے جو اسکانات اپنی پسند اور فدق کی شادی کر لینے میں ہوتے

ہیں وہ اس صورت میں قطعاً ممکن نہیں کہ اپنی پسند اور بصیرت استعمال کیے بغیر کسی دوسرے کے انتساب پر شادی کر لی جائے۔

میرا خیال ہے کہ ایک نوجوان حضر جنہی تسلیم کا خواہ مند نہیں ہوتا، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ قرہان کرے، کسی سے محبت کرے، کسی کی خوشی کا خیال رکھے اور کوئی اس کی خوشی پر خوش ہو۔ اس جذبے کے فلسفی نکاس کا راستہ تو یہ ہے کہ وہ کسی الیٰ رُش کی سے شادی کرے جسے اس نے تدبیح، اطوار، کردار اور دسری خوبیوں کی بنابر اپنی طبیعت کے مطابق حاصل کیا چاہا ہے (حقیقی محبت کسی کی باطنی خوبیوں کے دیکھنے سے ہی پیدا ہوتی ہے زکر شکل دیکھنے سے) اور یہ ہات ناممکنات میں ہے کہ پہلے تو کسی کی شادی کرادی ہائے اور پھر اس سے مطابق کیا جائے کہ اب اس سے چاہو اور یوں چیزیں تم نے اس کو خود پسند کیا ہے۔ اس فلسفی محبت کا راستہ بند کر لینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جذبہ اپنے لیے دوسرے راستے نکال لیتا ہے۔

پردے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہیں ان میں حقیقتاً کردار دیکھو کہ بر تلاش کرنا ممکن نہیں۔ رُش کے کے ہاپ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ رُش کی کا پتھر چلا سکے، رُش کی دلالت کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ رُش کے کے متعلق براہ راست کچھ اندازہ لگا سکے۔ کیونکہ پردے کی وجہ سے ان افراد میں بھی تعاق اور آزادانہ گفتگو ناممکن ہے۔ (خود رُش کے اور رُش کا مذا تو ایک طرف رہا) بڑی سے بڑی آزادی جو اسلام نے دی ہے وہ یہ ہے کہ رُش کا رُش کی کی شکل دیکھ لئے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کی شکل چند سیکنڈ دیکھ لینے سے کیا

ہو جاتا ہے۔

اس مسئلے کا ایک اور پوچھی ہے، اب تو تمام علما نے تسلیم کر لیا ہے کہ موجودہ تکنی ضروریات پوری کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی کام کر سکتی ہیں۔ یا تو اسلامی احکام کی پابندی کریں یا علم حاصل کریں۔ پردے کی پابند ہوتے ہوئے میری بھنگ میں نہیں آتا کہ طبقات اللادن، آثار قدیمہ، انجینئرزنگ اور تمام ایسے علوم جن میں سردے اور در دلائل سفر کی ضرورت ہوتی ہے، ان علوم کے لیے خواتین کس طرح کام کر سکتی ہیں جبکہ کھرم کے بغیر عورت کا تین دن سے زائد کی مسافت پر نکلا بھی منع ہے۔ اب کیا پر بھنگ دہ اپنے ساتھ خرم کو لے لیے پہنچے گی؟

یہ علوم تو ایک طرف ہے، میں تو ڈاکٹری اور پردے کو بھی ایک دوسرے کی ضد بھتی ہوں۔ اول تو ڈاکٹری کی تعلیم ہی جو جسمانیات کی نکاح ہیں پھرلا دینے کے والے معلومات سے پڑھتی ہے، چنانکے اس احساس کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے جس کی مشرقی عورتوں سے توقع کی جاتی ہے۔ خواہ دو ڈاکٹری پردے ہی میں سمجھی جائے اور پڑھانے والی تمام خواتین ہی کیوں نہ ہوں۔ دوم ڈاکٹر بننے پر ایک خاتون کو مریضوں کے لواحقین سے رد الیخ کی اس قدر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے غیر مردوں سے بات چیت پر قدر غن لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے پیش نظر اگر ہم خواتین کو ڈاکٹر بننے سے روکتے ہیں تو پھر ہم اپنے گھروں کی مریض خواتین کے ہر مرض کے علاج کے

یہے مرد ڈاکٹر دل کی خدمات کی ضرورت پڑے گی اور رائجِ اوقات نظر یہ جیسا
کے مطابق یہ تواں سے بھی نریادہ مسیوب بھجا جائے گا۔

خاپ عالیٰ آپ مجھے بتائیں کہ ان معاشرتی اور تمدنی المجنوں کا اسلامی حکایت
کی پابندی کرتے ہوئے کیا حل ہے؟

جواب:-

آپ کا دروس را خط ملا۔ شادی کے معاملے میں آپ نے جو اکھن بیان
کی ہے وہ اپنی جگہ درست ہی ہی، اس کا حل کورٹ شپ کے سوا اور
کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تفصیل کے ساتھ رفیق زندگی بنانے کے پہلے لڑکی
اور لڑکے کو ایک دوسرے کے اوصاف، مزاج، عادات، خصائص اور
ذوق دہن سے واقع ہونے کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں، الیسا
تفصیل واقعیت در چار طلاقاً توں میں، اور وہ بھی رشتہ داروں کی موجودگی
میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہمینوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا
تہائی میں بات چیت کرنا، سیر تفریح، سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ
رہنا اور بے تکلف دوستی کی حد تک تعلقات پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ کیا واقعی
آپ یہی چاہتے ہیں کہ لو جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اس اختلاط
کے موقع بہم پختے چاہیں۔ آپ کے خیال میں ان جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے
اندر ان معصوم غسلیوں کافی صدی ناسیب کیا ہو گا جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ صرف
رفیق زندگی کی تلاش میں مخلصانہ تحقیقیات روایتی قائم کریں گے اور اس درمیان میشل دی
ہوئے تک اس طبعی جذب و انجذاب کو قابو میں رکھیں گے جو خصوصیت کے

ساتھ نوجوان کی حالت میں صورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے اپنے اندر رکھتے ہیں؟ بحث برائے بحث اگر آپ نہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو دنایا پڑے گا کہ شاید دو تین فیصدی سے زیادہ ایسے لوگوں کا اوس طبقہ آبادی میں نکلے گا۔ باقی اس امتحانی دورہ ہی میں فطرت کے تباہی پر کرچے ہوں گے اور وہ دو تین فیصدی جو اس سے پنج انھیں گے، وہ بھی اس شبہ سے پچ سکیں کے کہ شاید وہ پاہم موثق ہوچکے ہوں۔

پھر کیا یہ ضروری ہے کہ ہر رٹ کا اور رٹ کی جو اس تلاش و حقیقت کے لیے ہم خلاط کریں گے وہ لازماً ایک دوسرے کو فاقت کے لیے منتخب کر لیں گے؛ ہم سکتا ہے کہ ۲۰ فیصدی دوستیوں کا نتیجہ نکاح کی صورت میں بہ آمد ہو۔ ۸۰ فیصدی یا کم از ۵۰ فیصدی کو دوسرے کا تمیرے تجربے کی ضرورت لاحق ہوگی۔ اس صورت میں ان "تعلقات" کی کیا پوزیشن ہوگی جو دردانِ تجربہ میں آئندہ نکاح کی امید پر پیدا ہو گے رکھتے اور ان شبہات کے کیا اثرات ہوں گے جو تعلقات نہ ہونے کے باوجود ان کے متعلق معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے؟

پھر آپ یہ بھی نہیں گے کہ رٹ کے اور رٹکیوں کے لیے ان موقع کے دروازے کھوتے کے بعد انتخاب کا میدان لا میال بہت دیکھ ہو جائے گا۔ ایک ایک رٹ کے کے لیے صرف ایک ہی ایک رٹ کی مطلع نظر نہ ہوگی جس پر وہ اپنی نگاہ انتخاب مرکوز کر کے تحقیق و امتحان کے مراحل طے کرے گا اور علی ہذا القیاس رٹکیوں میں سے بھی ہر ایک کے لیے ایک ہی ایک رٹ کا امسکانی شوہر کی حیثیت سے نری امتحان نہ ہو گا۔ بلکہ شادی کی منڈی میں ہر طرف ایک جاذب

نظر میں موجود ہو گا جو امتیازی مراحل سے گزرتے ہجئے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے سامنے بہتر اتفاق کے امکانات پیش کرتا رہے گا۔ اس وجہ سے اس امر کے امکانات روز بروز کم ہوتے جائیں گے کہ ابتداءً وجود و فرد ایک دوسرے سے آزمائشی علاقوں میں شروع کریں وہ آخر وقت تک اپنی اس آزمائش کو نہاہیں اور بالآخر ان کی آزمائش شادی پر مفہوم ہو۔

اس کے علاوہ ہی ایک فطری امر ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو روانی طرز کا کورٹ شپ کرتے ہیں ان میں دونوں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے روشن پہلو ہی دکھاتے ہیں۔ مہینوں کی علاقوں اور گھری دوستی کے باوجود ان کے کمزور پہلو ایک دوسرے کے سامنے پوری طرح نہیں آتے۔ اس بعد ان میں شہوانی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے شادی کر لینا چاہتے ہیں، اور اس فرض کے لیے دونوں ایک دوسرے سے لیے لیے پیاں و فاہدتے ہیں، اتنی محبت اور گرددیرگی کا انہیا کرتے ہیں کہ شادی کے معاملات کی زندگی میں وہ عاشق و عشقی کے اس پارٹ کو زیادہ دیر تک کسی طرح نہیں نباہ سکتے، یہاں تک کہ جلدی ہی ایک دوسرے سے مایوس ہو کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیونکہ دونوں ان توقعات کو پورا نہیں کر سکتے جو عشق و محبت کے دور میں انہوں نے باہم قائم کی تھیں اور دونوں کے سامنے ایک دوسرے کے وہ کمزور پہلو آ جاتے ہیں جو معاملات کی زندگی ہی میں خاہر ہوا کرتے ہیں۔ عشق و محبت کے دور میں کبھی نہیں کھلتے۔

اب آپ ان پہلوؤں پر بھی غور کر کے دیکھیں۔ پھر آپ مسلمانوں کے موجودہ طریقے کی مزاعمدہ قیاحتوں اور اس کو رٹ شپ کے طریقے کی قیاحتوں کے درمیان موازنہ کر کے خود فیصلہ کریں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کوئی قیاحتوں نریادہ قابل قبول سمجھتے ہیں تو مجھ سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہی کو زیادہ قابل قبول سمجھتے ہیں تو مجھ سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس اسلام کے ساتھ آپ اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں جو اس راستے پر جانے کی اجازت دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ یہ کام آپ کو کرنے ہو تو کوئی دوسرا معاشرہ تلاش کریں۔ اسلام سے سرسری واقفیت سمجھی آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس دین کی حدود میں دو کامیاب شاریٰ کا وہ نسخہ استعمال کرنے کی کوئی لگنگا لُش نہیں ہے جسے آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

عورتوں کی تعلیم کے متعلق آپ نے جن مشکلات کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی راستے قائم کرنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ فطرت نے عورت اور مرد کے دائرہ کار الگ رکھے ہیں۔ اپنے دائرہ کار کے فرائض انعام دینے کے لیے حورت کو جس بہتر سے بہتر تعلیم کی ضرورت ہے وہ اسے ضرور طلبی چاہیے اور اسلامی حدود میں وہ پوری طرح دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے ایسی علمی و ذہنی ترقی بھی ان حدود کے اندر رہتے ہوئے لیکن بے جو عورت کو اپنے دائرہ کار کے فرائض انعام دیتے ہوئے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس معاملہ میں کوئی اختلافات نہ کرنا مسلمانوں کی

کو تاہی ہے نہ کہ اسلام کی۔ لیکن وہ تعلیم حور دس کے دائرہ کار سے یہی عورت کو تیار کر سے عورت ہی کے یہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے یہی تباہ گن ہے اور اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اس مسئلے پر تفصیل بحث کے لیے آپ میری کتاب "پردہ" کو بغور طلا حظہ فرمائیں۔

ترجمان القرآن جلد ۵۵ - عدد ۴۳ - جنوری ۱۹۷۱ء

نقطہ نکاح کا اصل مفہوم

سوال :-

ترجمان القرآن بابت ماہ مارچ ۱۹۶۲ء میں تفسیر القرآن کے تحت آپ نے جواہام متنبسط فرمائے ہیں، ان میں سے پہلے ہی مسئلہ میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ "قرآن نکاح کا نقطہ بول کر حرف عقد مراد یتیا ہے" یا قرآن اسے اصطلاحاً "صرف عقد کے یہی استعمال کرتا ہے" یہ قاعدة کلیتہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں کے غالب فقہی مسلک یعنی حنفیہ کے نزدیک ناقابل تسلیم ہے بلکہ جبکہ جبکہ اہل تفسیر کی تصریحات کے بھی منافی ہے۔ تجھب ہے کہ ایک الی بات جس کے حق میں شاید ہی کسی نے رائے دی ہو آپ نے قاعدة کلیتہ کے طور پر بیان فرمادی ہے۔

جواب :-

یہ ایک بھی بحث ہے کہ لفظت کے اقتدار سے نکاح کے معنی کیا ہیں علمائے لغت میں اس امر پر بہت کچھ اختلاف ہوا ہے کہ عربی زبان میں نکاح کے اصل معنی کیا ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ لفظ وطنی اور عقد کے حد میان لفظ شترک ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ ان دونوں میں شترک ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی عقد تزویج کے میں احمدی کے لیے اور عقد کے لیے بجزا استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی وطنی کے ہیں اور عقد کے لیے بجازا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن راغب صفحہ ان نے پورے نوویں کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ "لفظ نکاح کے اصل معنی عقد ہی کے ہیں۔ پھر یہ لفظ استعارۃ جماعت کے لیے استعمال کیا گی ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اس کے اصل معنی جماعت کے ہوں اور استعارے کے طور پر اسے عقد کے لیے استعمال کیا گی ہو۔" اس کی دلیل وہ یہ دستیہ میں کہ جتنے الفاظ بھی جماعت کے لیے عربی زبان میں یاد نیا کی کسی دوسری زبان میں حقیقتہ وضع کیے گئے ہیں وہ سب فخش ہیں۔ کوئی شریف آدمی کسی مہندب مجلس میں ان کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آخر کیسے ممکن ہے کہ جو لفظ حقیقتہ اس فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو اُسے کوئی معاشرہ شاری بیان کے لیے مجاز و استعارہ کے طور پر استعمال کریے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے تو دنیا کی ہر زبان میں مہندب الفاظ ہی استعمال کئے گئے ہیں نہ کوئی فخش الفاظ۔

علمائے اخوات بالعلوم یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لفظ حقیقتہ وطنی کے لیے

اور بیان اعقد کے پیسے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ اختلاف کی مشق علیہ رائے نہیں ہے۔ بعض شریعہ حنفیہ اس لفظ کو دلی اور عقد کے درمیان مشترک مخصوصی بھی قرار دیتے ہیں۔ پھر نکاح کی شرعی تعریف تو ان کے ہاں یہی ہے کہ ”جو عقد یضید ملک الشفعة تصدأ“ یا ”عقد وضم لتمیذ منائم البعض“۔

میرے تردیکب قرآن و سنت میں نکاح ایک اصطلاحی لفظ ہے جس سے مراد لازم اعقد ہر دفعہ ہی ہے اور جب یہ لفظ سلطقاً راستعمال ہو گا تو اس سے مراد عقد ہی یا چاہئے حجایا یا کہ کوئی ترقیہ اس بات پر ملات کرتا ہو کہ یہاں مراد عرض و دلی یا عقد معالوطی ہے۔ رسمی دلی یا عقد تو اس کے پیسے لفظ نکاح کے استعمال کا جواز لفظ میں تو ہر سختا ہے لیکن قرآن و سنت میں اس کی کوئی شان میرے علم میں نہیں ہے۔ تب کے علم میں ہو تو پیش فرمائیں۔

راہیں کے جواب میں سائل نے فدق کی بعض کتابوں کے مفصل عبارتیں نقل کر کے بھیجیں۔ اس پر ان کو حسب ذیل جواب دیا گیا۔ (۳)

افسر ہے کہ کسی نسلے پر زیادہ طویل بہث کی فرصت بھے میتر نہیں (۱) اہم اجہان ایک ہار پھر اپنے ٹرکاکی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی الہینان نہ ہو تو مصلحت نہیں۔ آپ اپنی رائے پر قائم رہ سکتے ہیں اور میں اپنی رائے پر۔ نکاح سے مراد عقد اور دلی بعد عقد لینے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے؛ اختلاف صرف اس امر میں ہے کہ آیا اس سے مراد دلی بغیر عقد بھی لی جاسکتی ہے؟ اس چیز کے ماننے میں مجھے تامل ہے، میکوئی کہ شرعاً اس کے لیے زنا اور سفاح وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس قبیح فعل پر لفظ نکاح کا الہاتجہ جائز تسلیم

کرنے کے لیے ان دلائی سے زیادہ قوی دلائی کی خودرت سے ہے جو آپ نے
نقل فرمائے ہیں۔

یہ بات بھی قابل تسلیم نہیں ہے کہ نکاح کا لفظ اصلاً فعل مباشرت کے لیے
وضع ہوا تھا اور پھر بماز اعقد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ فعل مباشرت
کے لیے دنیا کی جیسی زبان میں بھی کوئی لفظ وضع ہوا ہے (معنی جو استعارہ و کنایہ
کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ صراحت اسی فعل کے لیے موضوع ہے) وہ قبیح و شنیع
ہے اور کسی زبان میں بھی اس کو عقد کے لیے بجاڑا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اردو
زبان میں اس فعل کے لیے جو لفظ مستعمل ہے اسے آخر کوون شخص بیاہ کے لیے
استعمال کرتا ہے۔

خود آپ کے پیش کردہ حوالوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ لفظ نکاح
کے اصل معنی فہم کے ہیں۔ اب کیا یہ بات مانتے کے لائق ہے کہ یہ لفظ اصلاً
مجرد فعل مباشرت کے لیے رہالی نظر اس کے کہ عقد ہو یا نہ ہو) وضع ہوا تھا؟
بلکہ الی بی مثالیں لفظ میں ہتھی ہیں جن میں یہ لفظ غرض مباشرت کے لیے استعمال
کیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس لفظ کا اصل مفہوم مباشرت ہے
اور عقد کے لیے یہ بجاڑا استعمال کیا گیا ہے۔

قرآن اور حدیث سے جو شالیں آپ نے دی ہیں ان پر آپ غور کریں
تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ان میں سے ایک بھی الی بی نہیں ہے جس کی درستی تاذیل لگن
ہے۔ مثلاً میں زنا سے مرمت مصاہرات کا قائل ہوں۔ مگر میرے تزویب قرآن
کی آپت ولا تنكحوا ما نكح اباء کم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ”جن“

عورتوں سے تھا را باپ زنا کر چکا ہوان سے تم نہ زنا کرو اور نہ عقد ہے بھر میں
اس کا مطلب یہی لیتا ہوں کہ جن عورتوں سے باپ کا نکاح ہو چکا ہو، ان سے
ادلاز کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ البته اس سے بالتفعی حکم بھی ملتا ہے کہ باپ سے
جس عورت کا بھی شہوانی تعلق کسی طرح ہو گیا ہے وہ بھی پر حرام ہے اور بھی
کا تعلق جس عورت سے ہو گیا ہے وہ باپ پر حرام ہے۔ فاتحہ الیہ ملعون
میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ حضورؐ نے استخارہ کی زبان میں اسناد پالیڈ کرنے
والے کو ایسے شخص سے تشبیہ درخی ہے جو اپنے ہی ماتحت سے جیا کر رہے ہے۔
ایسی ہی تاویل مدرسے نظام کی بھی کی جاسکتی ہے۔

(ترجمان القرآن جلد ۵۸، عدد ۶ - ستمبر ۱۹۷۲ء)

عورت کی عصمت و عرفت کا مستقبل

سوال :-

مازنگ نیوز رکارچی، کامیک گنگ ار سالی خدمت ہے۔ اس میں
انگلستان کی عدالت طلاق کے ایک سابق نجح سر بربرت ولگشن نے
ایک مکمل بیوی کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس گنگ کا تصور ہے یہ ہے۔
رد من کی تھوڑک عدالت طلاق کے سابق نجح سر بربرت ولگشن نے
اپنے ایک فیصلہ میں ایک مکمل بیوی کی چھ دو خصوصیات گذائی ہیں جن

کا تضییل ہے۔
حمدی گشش، عقلاندی، محبت، نرم خوبی، شفقت، خوش
الظہری، جذبہ تعاون، صبر و تحمل، غور و فکر، بے غرضی، خندہ و دینی
و شید، کام کی لمحن اور وفاداری۔

سربربرت نے اپنے فیصلہ میں کہا ہے کہ یہ تمام خصوصیات ان
کی دوسری بیوی میں موجود تھیں جس سے انہوں نے الگست سنہ
۱۹۳۵ میں اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد شادی کی تھی۔ سربربرت جنہوں
نے اپنی عدالت میں سینکڑوں ناکام شادیوں کو فتح کیا ہے ۸۹ بُس
کی عمر پا کر خود ریست ٹھہرے میں وفات پائی گئے ہیں۔

اس کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ سربربرت ہرث نے عفت یا
پاکدا منی جیسی خوبی کو ان چور و نکاتی ہرست میں برائے نام بھی داخل کرنا
فرمادی نہیں کیجا۔ گویا اب پاکدا منی کا شمار عورت کی خوبیوں میں نہیں
کیا جاتا۔ میں یہ بیخنے سے قاصر ہوں کہ ایک حورت پاکدا منی کے بغیر کس
طرح خود کی وفاداری سکتی ہے؟

جواب :-

آپ کا حنایت نامہ وہ جس کے ساتھ آپ نے انگلستان کی ایک عدالت
خواق کے نجی کی وصیت ارسال کی ہے اور مجھے اس پاظہہار خیال کی دعوت
دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل مغرب کے ہاں سے یعنی اب قریب قریب
ختم ہی ہو چکا ہے کہ پاکدا منی بھی عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔

اخلاق مروزن کا لازمی تھی یہ تھا کہ ان کے ہاں بدکھری بُرھتی چلی گئی یہاں تک کہ معاشرے کو اب اس کے رواجِ عام سے اپنے آپ کو منوس کرنا پڑا۔ اب وہاں کوئی شخص بھی یہ توقع نہیں رکھتا کہ شادی کے روز اسے جو یہی کھو دے گی اور شادی کے بعد بھی وہ ہاعفت اور وفا شعار رہے گی۔ درہاں مرد بالعوم کو رشت شب کے دوران میں خود اپنی ہونے والی بیوی سے زماں کر کچا ہوتا ہے اور اکثر شادی ہی اس وقت ہوتی ہے جبکہ رش کی حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں آخر آپ یہ توقع ہی کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں اب تک پاک دامنی عورت کی ایک محدود صفت اور بیوی کی ایک لازمی خوبی کبھی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا کیا ذکر ہے۔ ہمارے حکماء میں اور اونچی سوسائٹی کے لوگوں کی بدولت اب جس رفتار سے ہمارے ہاں اخلاق مروزن بُرھر ہے اور خاندان منصورہ بندی کے نام سے بسطہ دلادت کے طریقوں کو جس طرح عام کیا جا رہا ہے اس کو سمجھتے ہوئے خود ہمارے ہاں یہی حالت پیدا ہوتے نظر آتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ہماری قوم کو ان سے نجات دے جو خود بگڑے ہیں اور ساری قوم کو بگاڑ دینے پرستے ہوئے ہیں۔

(ترجمان القرآن جلد ۵، عدد ۶۔ تبریز ۱۹۹۶ء)

بیوی اور والدین کے حقوق

سوال :-

میں نے آپ کی کتاب میں پڑھی ہیں، جن سے میں دہن کی بہت سی
گز ہیں کھل گئی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو پہلے بھی دل میں کھٹکتی تھی اور ادب
بھی کھٹکتی ہے دہی ہے کہ اسلام نے جہاں عورتوں کا درجہ کافی بلند
کیا ہے، وہاں بحیثیت بیوی کے بعض امور میں اس کو خفیر بھی کر دیا
ہے۔ مثلاً اس پہلی تین سو کنوں کا جلا پا جائز کر دیا ہے، حالانکہ
قدرت نے عورت کی فطرت میں خند بھی رکھا ہے۔ اسی طرح جہاں
بیوی کو شوہر کے قبضہ و اختیار میں رکھا گیا ہے، وہاں شوہر کو اپنے
والدین کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے۔ اسی طرح شوہر والدین کے
کہنے پر بیوی کی ایک جائز خواہش کو بھی پامال کر سکتا ہے۔ ان امور
میں بظاہر بیوی کی حیثیت چار پیسے کی گذرا یا سے زیادہ تنظر نہیں آتی۔
میں ایک عورت ہوں اور قدرتی طور پر عورت کے جذبات کی ترجیح
کر دہی ہوں۔ آپ بڑا کرم اس طرفے میں میری تشفی فرمائیں۔

جواب :-

آپ نے دو درجہ کی بنا پر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عورت کی پوزیشن
خانگی زندگی میں فرد قدر کھی گئی ہے۔ ایک یہ کہ مرد کو چار شادیاں کرنے
کی اجازت ہے مدرسے یہ کہ شوہر کو والدین کا تابع رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے

بس اوقات وہ اپنی بیوی کے چند بات اور اس کی خواہشات کو دل الدین کی رضا
پر قربان کر دیتا ہے۔ ان درجہ میں سے بیلی وجہ پر اگر آپ غور کریں تو یہ
بات بہت آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ حورت کے لیے
تین سو کنوں کا برداشت کرنا جتنا تخلیف وہ ہے، اس سے بدر جہان نیا درد
تخلیف وہ چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے کہ اس کے شوہر کی کئی کمی مجبور بائیں اور
داشت میں ہوں۔ اسلام نے اسی کو رد کرنے کے لیے مرد کو ایک سے زائد نکاح
کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک مرد ناجائز تعلقات میں جتنا بے ہاک ہو
سکتا ہے اشاریاں رچانے میں اتنا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ شادی کی صورت میں مرد
کی ذمہ داریوں میں اختلاف ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیپیدگیوں سے اسے
سالیقہ پیش آتا ہے۔ یہ دراصل حورتوں ہی کے فائدے کے لیے ایک روک
تحام ہے نہ کہ مرد دل کے لیے ہے چار عایت۔ دوسرے طریقے کا تجربہ آجبل
مغرب کی سوسائٹی کر رہی ہے وہاں ایک طرف تو جائز سوکنوں کا سدہ باب کر دیا
گیا ہے لیکن دوسری طرف ناجائز سوکنوں سے حورت کو بچانے کا کوئی انتظام اس
کے موالیں کیا گیا کہ وہ انہیں برداشت نہ کر سکے تو شوہر سے طلاق حاصل کرنے
کے لیے عدالت میں نالش کر دے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے حورت کی حیثیت
کچھ کم ہو گئی ہے؟ چھڑی چھٹا نک حورت تو شاید سوکن سے بچنے کے لیے طلاق
کو آسان سمجھ لے مگر کیا بچوں والی حورت کے لیے بھی یعنی آسان ہے؟

دوسری جس شکایت کا اظہار آپ نے کیا ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ
 غالبًاً آپ الجھی تک صاحب اولاد نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو آپ کے کسی لڑکے کی

ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ آپ اس خاص معاشرے کو ابھی تک صرف بہو کے نقطہ نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں خود بہو لے آئیں گی اور اس معاشرے پر ماں کی حیثیت سے غور کریں گی تو یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہوی کے حقوق کتنے ہونے چاہیں اور ماں ہاپ کے کتنے، بجہ اس وقت شاید آپ خود انہی حقوق کی طالب ہوں گی جن پر آج آپ کو احترا

ہے۔

ترجمان القرآن ربیع الاول ۱۳۶۷ھ - نومبر ۱۹۵۶ء

قرآن میں زنا کی منرا

سوال :-

آپ نے میرے سخنون "قرآن میں چور کی منرا" پر جواب فرمائیا ہے اس کے لیے شکریہ۔ اب اسی قسم کا ایک اور سخنون "قرآن میں زنا کی منرا" کے عنوان سے یقین رہا ہوں۔ میری استدعا ہے کہ آپ اس پر بھی فرمائیں۔ اگر خدا کو مطلع ہوا تو جانب کی دو فوٹو خیریت کو کیجا جواب دوں گا۔

یہاں سرسری طور پر اس قدر گزارش کرنا ضروری ہے کہ آپ نے میری اس نظرت کے ہاتھے میں نکتہ چینی نہیں فرمائی کہ قرآن نے جو عذرخواہ کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ منرا ہے، اور کم سے کم منزانج

کی قوتیت تینی پر محصر ہے۔ اور نہ اس بارے میں کچھ فرمایا کہ دنیا میں کسی جرم کی سزا مجرم کو آخرت کی سزا سے محفوظ رکھتی ہے۔

نوٹ : مستفسر کے مخواہ بالامضون کے چند خودی اقتباسات درج فریں ہیں، تاکہ ان کی روشنی میں جواب کو دیکھا جاسکے۔

”کہم اپنے صfon (قرآن میں چور کی سزا) میں تلا پچے ہیں کہ مارقہ سے مراد سرقہ کے تمام مردگار لوگ ہیں، خواہ وہ ملکہ ہوں یا مذکور، اور خود عورت اگر چور ہے تو وہ لفظ سارق میں بھی داخل ہے اور سارق بھی ہے۔ یہاں بھی (رأیت الزانیۃ والزانی میں) وہی کیفیت ہے۔ زانیہ میں فعل زنا کے تمام مردگار لوگ شامل ہیں، خواہ وہ دلال ہوں، دلالہ ہوں یا پیغام رسائیں ہوں، یا زانیوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے، یا زنا کے مفعول ہوں، دغیرہ دغیرہ۔“

چور کی سزا کو بیان کرتے ہوئے ”وسارقہ“ کو سارقہ کے بعد لایا گیا تھا، آفر کوئی ذجہ ہونی چاہیے کہ یہاں زانیہ کو زالی سے پہلے لایا گیا۔ ہمیں جو کچھ علوم جو تھے وہ یہ ہے کہ چوری کے جرم میں بلا جرم چور ہوتا ہے اور اس کے مردگار بعد میں۔ مگر زنا کی صورت میں زنا کے مردگاً (لعنی زانیہ) زانی سے متقدم ہیں، کیونکہ ان کی امداد اور رضاہندی کے بغیر فعل زنا واقع ہی نہیں ہو سکتا، اس واسطے اسے پہلے لایا گیا۔“

”قرآن نے زنا کی دو سزا بیس بیان کی، میں، ایک یہ کہ زانیوں کو ۱۰۰ کوٹیے“

مارے جائیں اور دوسری یہ کہ ان کا مقاطعہ (بدهی) نے آیت الزانی
لا میکم الا زانیۃ) کر دیا جائے۔ یعنی ان کو مومنین کی جماعت
سے بیرون کر کے یہ اجازت نہ دی جائے اور وہ قوبہ کیے بغیر مومنین کے
اندر نکال کریں۔ — ”قرآن میں وحیہ احکام کی روئے مومن کا پسر کے
ساتھ نکال جائز نہیں اور یہاں اس کے خلاف ہے۔ سو اس کا جواب
یہ ہے کہ یہاں پر شرک اور شرک کے اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں،
یعنی شرک کو عورت ہے جو اپنے خادم کے ساتھ کسی دوسرے کو خط
اٹھانے میں شرکیہ کرے۔ اور شرک وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ
کسی غیر عورت کو خط حاصل کرنے میں شرکیہ کرے۔ —

پس زانیہ اور شرک کے معنی میں فرق ہے۔ شرک کے شوہر دار زانیہ ہے
اور زانیہ دہ مرد یا عورت ہے جو فعل زنا میں کسی دوسرے کی مدد
کرے۔ اپنے آپ کو مفعول بنا نے سے یا کسی دوسری طرح۔ اسی طرح زانی
اور شرک میں فرق ہے۔ زانی عالم ہے، خواہ اس کی بیوی ہو یا نہ ہو، اور
شرک وہ زانی ہے جس کی بیوی ہو۔ — ”جو عالم صاحبان ہمارے
اس قول کو نہیں مانتے وہ زانی کے لیے صرف ایک ہی سزا تجویز کریں
گے، یعنی سو کوڑے۔ دوسری سزا مقاطعہ ان کے ہاں کوئی سزا نہ ہوگی“
— ”لکا ہر ہے کہ یہ سو کوڑے انتہائی سزا ہے۔ ہم نے اپنے
صفوں دفتر میں چور کی سزا کے اندر سمجھا تھا کہ چور کی سزا ہاتھ کا شنا
انتہائی سزا ہے، کم سے کم سزا مجع کی قوت تکمیلی پر منصر ہے۔ —

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تعریفات کی کتاب یعنی قرآن مجید اس قابلے
کے خلاف سب جرموں کے لیے ایک ہی مذرا تجویز کرے اور سب کو
ایک ہی لاشی سے ہانکے، حالانکہ ہر ایک جرم کے حالات مختلف ہوتے
ہیں جن پر جرم کی شدت اور خفتت کا دار و مدار ہوتا ہے۔
”یہی درجہ ہے کہ خلفاء رضی اللہ عنہم اور خود رسول اکرم نے زنا کی انتہائی
حالتوں میں سو اکتوبر کی مذرا کو نام کافی خیال کر کے جرمین کو رجہم کی
مزادی، یعنی فتوائے موت صادر کیا۔“ ہمارے زمانے میں
رجہم جائز ہے یا نہ؟ کم از کم اتنا معلوم تو ہے کہ قرآن میں رجہم کا کوئی
ذکر نہیں۔ اور حسب حالت یہ ہے تو اسے کیوں ایک فسونہ اللادۃ
اور قائم الحکم آیت کی بنابری ریجھت لایا جائے۔ زنا کرنے
والے کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اس لیے اگر بعض فصوص حالتوں
میں زانی کے خلاف موت کا فتویٰ صادر کیا جائے تو اس میں کوئی
حرج نہیں ہوتا۔ مگر وہ صرف فتوائے موت ہو، فتوائے رجہم نہ ہو!
کیونکہ رجہم آج محل کے تہذیب کے خلاف ہے اور کوئی انسانی طبیعت
رجہم کو گوارا نہیں کر سکتی۔“ اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ
زنا اور چوری کے جرموں کی ایک بیاندی فرق ہے وہ یہ کہ چور کو توبہ
کرنے کا موقع مذرا سے قبل دیا گیا ہے اور زانی کو مذرا کے بعد دیا
رآیت اللہ الذین قابلاً من بعد ذالک (۱۷)۔
یہاں ذالک کا اشارہ مذرا کی طرف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زانی

کسی صورت میں حد سے بڑی نہیں ہو سکتا مگر چور تو بہ کر کے حد سے
بڑی ہو سکتا ہے، بشرطیکہ قاضی قبول کرے ۔“

جواب ۔۔

عنایت نامہ مع مضمون ”قرآن میں زنا کی نزا“ پنچا۔ آپ کے پہلے مضمون اور اس دوسرے مضمون کو بغور پڑھنے کے بعد میں اس نصیحت پر پنچا ہوں، رادر میری اس اظہار پر اسے پر آپ بُرا نہ نانیں، کہ آپ آیات قرآن کی تاویل و تفسیر اور احکام شرعیہ کی تشریح میں وہ احتیاط محفوظ نہیں رکھتے جو ایک خدا تعالیٰ کو محفوظ رکھنی چاہیئے۔ اگر آپ میری نصیحت نانیں تو میں دو باتیں بطور اصول کے آپ کو بتاؤں۔ ایک یہ کہ آپ بطور خود اپنے تظریات قائم کر کے قرآن و سنت سے جو تعلیم ملے اس کے مطابق تظریات قائم کی کریں۔ دوسرے یہ کہ قرآن و سنت سے کسی مسئلے کا استنباط کرتے وقت مدعو کے مجتہدین و مفسرین و محدثین کی تشریحات کو سرے سے تطریز نہ کر دیا کریں۔ آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے ایک کی رائے کو چھوڑ کر دوسرے کی رائے قبول کر لیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کا آپ کے ساتھ رہنا اس سے بہتر ہے کہ آپ کے سب سے الگ مستقل مذہب بنائیں تفریض اس صورت میں ہائے ہو سکتی ہے جبکہ آپ قرآن و سنت کے گھر سے مطالعہ سے اعلیٰ درجے کی تحقیقات بصیرت بہم پنچا چکے ہوں۔ (جس کی علامات آپ کی تحریر دل میں مجھے تظریز نہیں آئیں) اور جس مسئلے میں بھی آپ اپنی مستفرد رائے ظاہر کریں اس میں آپ کے بلاعث نہایت مصبوط ہوں۔ ان دو باتوں کو اگر آپ محفوظ رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ اُس طرح کی فلسفیوں سے محفوظ

ہیں گے جو میں نے آپ کے مضمون میں پالی ہیں۔

میرے لیے آپ کے مضمون پر مفضل تقدیم کرنا تو شکل ہے، البتہ جو نمایاں غلطیاں بکیں فخر دیکھو سکا ہوں انہیں بیان کیے دیتا ہوں۔

(۱) آپ کا یہ قول ایک حد تک صحیح ہے کہ قرآن میں چوری اور زنا کی جو منازعہ انتہائی سزا رہے، کم سے کم نہزادی کے اختیار تیزی پر موقوف ہے۔ لیکن اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کی تحریک بھی ضروری ہے کہ جب زنا کے لیے وہ شہادت بھیم پنج چائے جو شرعاً ضروری ہے، اور جب شرعاً قواعد کے مطابق چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر چوری اور زنا کی وہی حد جاری کر لی پڑے گی جو قرآن میں مقرر کردی گئی ہے۔ اس صورت میں خود سے کم سزا دینیے کا نجی کو اختیار نہیں۔ البتہ کتر دجه کی چوریاں کتر دجه کی نزاٹوں کے قابل ہوں گی، اور ثبوتِ زنا کے بغیر الگ کتر دجه کے فواحش شہادت یا قرائی سے ثابت ہوں گے تو ان پر کتر دجه کی نزاٹوں کے قابل ہوں گی، اور ثبوت پر کتر دجه کی نزاٹیں دی جاسکیں گی۔

(۲) آپ نے اپنے اس مضمون میں بھی اپنی فلسفی غلطی کا اعادہ کیا ہے کہ الزانیۃ کے معنی مفعولِ زنا کے درگار لوگ ”بیان کیے ہیں اور اس سے مراد ”دلال“، ”دلائل“، ”پیغام رسال“ اور زانی و زانیۃ کے لیے آسانیاں بھیم سخافے دے لے“ یہے ہیں۔ قرآن صریح طور پر اس معنی سے اباکرتا ہے۔ جس آیت میں زانی و زانیۃ کی نزا بیان کی گئی ہے اس میں الزانیۃ سے پہلے الزانیۃ کا ذکر ہے اور پھر دلوں کے لیے ایک ہی نزا مقرر کی گئی ہے کہ فاجددوا مکل واحد سمعاً

ساختہ جلد تر (دونوں میں سے ہر ایک کو تو کوٹھے مار دی)۔ لیکن آپ نے اس پر بھی اپنی رائے کو قرآن کے مطابق بدلنے کے بجائے قرآن کے حکم کو اپنی رائے کے مطابق بدلنے کی کوشش فرمائی۔ یہ بڑی بے جا جہارت ہے جس سے پرہیز و احتجاب تھا۔

(۲) مشرک اور مشرکہ کے جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں (معنی مشرکہ کو عورت ہے جو اپنے خادم کے ساتھ دمرے کو حظ اٹھانے میں شرکیہ کرے اور مشرک وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر عورت کو حظ حاصل کرنے میں شرکیہ کرے) یہ بالکل ہی ایک آزادانہ معنی آفرینی ہے جس کے لیے نہ لفظ میں کوئی بُنیاد پانی جاتی ہے، نہ اصطلاح میں، اور نہ کوئی قرینہ ہی ایسا موجود ہے جس کی بنابر ایسے دراز قیاس دگمان معنی لیے جاسکیں۔ آیت **الْزَانِ لَا يُنِيبُكُمْ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ**..... الخ میں لا یُنِيكُمْ سے مراد لا یلیق مبہ اون نیکھم ہے۔ لیکن زانی ایک ایسا بدکار ہے کہ وہ کسی عفیفہ مومنہ سے نکاح کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے اگر مونڈ ہو سکتی ہے تو ایک بدکار یا مشرکہ عورت ہی ہو سکتی ہے، اور زانیہ ایک ایسی فاسقه دنابجرہ ہے کہ وہ کسی ماحصلت مومن کے لیے مونڈ نہیں ہے، وہ اگر نکاح کے لائق ہے تو ایک بدکار یا مشرک مرد کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس سے مقصود فعل زنا کی قیامت دشاعت داضع کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ صالح اہل ایمان کو معروف بالزناء مردوں اور عورتوں سے مناکحت کے تعلقات نہ قائم کرنے چاہئیں۔

(۳) یہ ایک عجیب بات میں نے دیکھی کہ آپ خود تسلیم فرمائے ہیں کہ خلفاً سے اربعہ اور رسول اللہ صلیم نے زنا کی انتہائی حالتوں میں (زنا فی فص کی آپ تصریح نہیں کرتے) مجرم کو رجم کی سزا دی سے ہے، مگر پھر بھی آپ یہ کہنے میں تامل نہیں کرتے کہ " رجم آج کل کے تمدن کے خلاف ہے اور کوئی انسان طبیعت رجم کو گوارا نہیں کر سکتی " میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ان الفاظ پر آپ خود اگر کبھی غور کریں گے تو آپ کو مذاقت محسوس ہو گی۔ کیا کوئی انسان طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دیا رہ پا کریں گے اور حسین و شفیق ہو سکتی ہے؟ اور کیا ہم مسلموں کے لیے آج کل کا تمدن راشیم ہم دلالتمدن!) کوئی معیارِ حق ہے؟

یہ چند معرفات میں صرف اس لیے پیش کردہ ہوں کہ آپ نے خود بھوکو اپنے مظاہر پر تنقید کی دعوت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ تنقید کی خود دعوت دیتے ہیں تو آپ خدا میری ان ہاتوں کو ٹھنڈے دل سے پڑھیں گے اور اگر حق معلوم ہوں گی تو قبول کریں گے۔

ترجمان القرآن، ربیع الاول ۱۴۲۰ھ جبوری فردی

دارالاسلام اور دارالکفر کے مسلمانوں میں واثقہ منکحت کے تعلقات

سوال:-

الجہاد فی الاسلام کے درود میں مطالبہ میں ایک آیت وَاللّٰہُ ذٰلِیں
 اَمْنُوا وَكُفُّوْا يُعَذِّبُ جَرُوْرًا مَا لَكُمْ مِنْ دُلَّا يَتَّهِمُ مِنْ
 شَيْءٍ الخ نظر سے گزدی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ
 نے تحریر فرمایا ہے کہ "اس آیت میں آزاد مسلمانوں اور غلام مسلمانوں کو
 نہایت دضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے چہے مالکہ میں
 دُلَّا يَتَّهِمُ مِنْ شَيْءٍ سے یہ تبایا گیا ہے کہ "جو مسلمان دارالکفر میں
 رہنے قبول کریں یا رہنے پر محروم ہوں ان سے دارالاسلام کے مسلمانوں
 کے تردی تعلقات نہیں رہ سکتے، شوہد باہم دشمنت قائم کر سکتے ہیں
 اور زانہوں ایک دوسرے کا دشاد ترکہ مل سکتا ہے" اب عرض یہ
 ہے کہ شہزادستان و پاکستان "دارالکفر" اور "دارالاسلام" کی صفت
 میں دو ملک دھوکہ میں آگئے ہیں۔ شہزادستانی مسلمانوں کی حالت بھی اظہر
 من الشس ہے۔ ان کی ذہنیتیں بھی بُشی حد تک بدال چکی ہیں۔ بڑھیکے
 ان سب لوازمات سے لیس ہو چکے ہیں جو ایک غلام قوم کے لیے
 اُن سب خردہ میں۔ بہترے رہنے پر بحمدہ ہیں اور بہت سے دہلی
 کی رہائش گھڈا قبول کیے ہوئے ہیں۔ بعض بھرت کر کے اپنے
 دین دناموس کی حفاظت کی خاطر پاکستان پلے آئئے ہیں۔ ان میں

اکثر ایسے بھی ہیں جن کے والدین ہندوستان ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور مرتے دم تک اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں مگر اولاد پاکستان چل آئی ہے اور اب ہندوستان کی سکونت اختیار کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں۔ انہیں حالات حسب ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں :

- (۱) الیسی حالت میں اولاد، والدین یا کسی اور رشتہ دار کے ڈشہ دتر کہ سے خرد مر ہے گی؟ اگر وہ ان کے انتقال پر اپنے حق دراثت کا دعویٰ کریں تو کس حد تک یہ دعویٰ جائز یا ناجائز ہو گا؟
- (۲) موجودہ حالات کے پیش نظر کوئی پاکستانی رہبا جمیر یا اصلی ہائیکوئٹ مسلمان رہنگار کے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ کرنے کی صورت میں تعلقات جائز کیجئے جائیں گے یا ناجائز؟

جواب :-

جہاں تک مجھے علم ہے قرآن کا فرشتہ ہی ہے کہ دارالاسلام اور دارالکفر کے مسلمانوں میں دراثت اور شادی بیان کے تعلقات نہ ہوں۔ وہاں ہی جوں کہ معاملہ جن کے ایسے رشتہ دار دارالکفر میں رہ گئے ہیں جن کے وہ وارث ہو سکتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی میرا خیال ہی ہے کہ نہ ہندوستان میں اپنی میراث پا سکتے ہیں اور نہ ان کے ہندوستانی رشتہ دار پاکستان میں ان سے میراث پانے کا حق رکھتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھرت سے نکاح آپ ہی آپ تو نہیں قوٹ سکتا لیکن الگ نہ جیں میں سے ایک دارالاسلام

میں تحریر کر آیا ہے احمد دوسرا تحریر پر تیار نہ ہو تو عدالت میں اس بیان پر دخواست دی جاسکتی ہے اور ایسے نوجین کا لکاح فتح کیا جاسکتا ہے۔ آئندہ شاری بیان کا عمل پاکستانی اور سندھستانی مسلمانوں کے درمیان نہ ہونا چاہیے۔

ترجمان القرآن۔ شعبان ۱۴۲۴ھ۔ جون ۱۹۵۱ء)

کیا پالغ خورت خود اپنا لکاح کر سینے کی فیاض ہے؟

سوال :-

صلائے احباب اور علمائے اہل حدیث کے درمیان نکاح بالغہ بادلی کے مسئلہ میں عام طور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ احباب اس کے قابل ہیں کہ بالغہ خورت اپنا نکاح اولیاء کے اذن کے بغیر بان کے خواہش کے علی الظہم جہاں چاہے کر سکتی ہے اور اس نکاح پر اولیاء کو افتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے برعکس اہل حدیث و حضرات ایسے نکاح کو باطل اور کالعدم قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نکاح بادلی کی صحت میں بلا اہل دوسرا نکاح کیا جاسکتا ہے۔ فریقین کے دلائل، جہاں تک میرے مانے ہیں، متصڑا پیش کرتا ہوں اور ابتدیا کرتا ہوں کہ اس بارے میں اپنی تفہیق و راغ فرائیں ہیں:

جواب :-

اس سوال کے ساتھ سائل نے پوری تفصیل کے ساتھ فریقین کے دلائل جمع

لر دیئے ہیں، لہذا پہلے ہم ان دلائل کو بیان نقل کر دیتے ہیں :

۱) خفیہ کا استدلال حسب ذیل آیات اور احادیث سے ہے ۱

وَالَّذِينَ تَسْوِيُونَ مُنْكَفِدَةً مَيْذَرُونَ أَذْوَاجًا يَئِرَاقُهُنَّ هَا لِفْسِهِنَ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرَ وَمُنْتَرًا جَ فَإِذَا مَيَّتُهُنَّ أَجْدَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
رِئَاهُ فَعَلُونَ لِنِ الْفُسِيمَنَ بِالْمَعْرُوفِ ط رالمقرہ ۲۹۔

تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو چار
پہنچنے والے روز کے کسی پھر جب ان کی حدت پوری ہو جائے تو جو کچھ وہ اپنی زات کے
معاملے میں معروف طریقے سے کریں اس کی قسم پر کوئی ذمہ داری نہیں ۔

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِمُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتِّيٍّ مُنْكَفِدَةً زَوْجًا غَيْرَهُ
رالمقرہ ۳۰

پھر اگر دیبری بار شوہرنے بیوی کو علاق رہے رہی تو وہ عورت اس کے لیے
حلال نہ ہوگی الا یہ کہ وہ کسی درسرے مرد سے نکاح کرے ۔

..... فَلَا تَعْصِيُّهُنَّ أَنْ تَبْكِحْنَ أَذْوَاجَهُنَّ إِذَا قَرَضُوا بِنِيمَهُ
بِالْمَعْرُوفِ ط رالمقرہ ۳۰

..... پھر تم ان عورتوں کو اس سے مت روکو کہ وہ لپٹنے زیر تحریک شوہروں سے
نکاح کر لیں جیکہ وہ بھلے طریقے سے با کم رضا مند ہو جائیں ۔

عَنْ خَافِعِ بْنِ جَيْرَهِ مَعْنَى أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَدِمُ الْحَقَّ بِنَفْسِهِ مَنْ وَلِيهَا وَابْنُ كُوْتَتْسَامِرْ وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا

د فی روایة الشیب احق ب نفسها من دلیها۔ رئیب الراویة ج ۳ ص ۱۸۲
 نافع ابن جبیر نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ بیوہ عورت اپنے ولی سے زیادہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی حکمرانی
 ہے، اور کنوواری کا مشورہ لیا جانا چاہیے۔ اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے
 اور ایک روایت میں ہے کہ شوہر بدہ عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے نکاح
 کے معاہدے میں حقدار ہے۔

عَنْ أَبِي سَالِمٍ أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَخْنَحَنِي رَجُلًا وَإِنَّا كَارِهُتُهُ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْعِدْ لَكَ حِلْمًا وَأَذْهَنْ فَانْكَحْهُ مِنْ شَتْتٍ۔
 (الیضا)

ابی سالم ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وہم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میرے باپ نے میرا نکاح ایک مرد سے
 کر دیا ہے اور میں اسے ناپس کر دی چوں۔ آپ نے باپ سے فرمایا کہ نکاح کا
 اختیار تمہیں نہیں ہے اور وہ کسے فرمایا جاؤ جس سے تھا راجحی چاہے نکاح کرو۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاتِمِ رَوِيَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ انْهَا زَوْجِتِ حَفْصَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمَنْذِرِ
 ابْنِ زَبِيرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ غَاصِبٍ بِالشَّامِ فَلَمَّا قَدِمْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ قَالَ دَ
 شَلِّي لِيَقْتَاتِ عَلَيْهِ ؟ فَكَلِمَتْ عَائِشَةَ الْمَنْذِرَ ابْنِ زَبِيرٍ فَقَالَ
 انْ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا كَنْتُ لَوْزَدَ أَمَّا

فضيلته فاستقرت حفصة عند المذرول والم يكن ذلك طلاقاً -
(الإضا)

لک نے عبد الرحمن سے انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے حضرت
واللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حفصہ بنت عبد الرحمن کا منذر ابن زبیر سے
نکاح کر دیا۔ اس وقت عبد الرحمن شام میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو
کہنے لگے کہ کیا میری راہے دکونظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ تب حضرت عائشہ
نے منذر ابن زبیر سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فیصل عبد الرحمن کے ہاتھ میں
ہے۔ اس پر عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جس صارٹے کو آپ نے
ٹکر دیا ہے، میں اس کی تردید نہیں کرنا چاہتا چنانچہ حفصہ منذر کے پاس ہی
رہیں اور یہ طلاق نہ تھی۔

اخرج جهہ الودا و النسائی عن ابن عباس قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس للوہی مم التثیب امر۔ (الیفنا)
ابو راڑا و اورنسائی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر دیدہ خورت پرے دل کو کچھ اختیار حاصل نہیں ہے
اخرج جهہ النسائی واصحد عن عائشہ قالت جاءت
فتاتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت يا رسول اللہ ان ابی زوجتی ابن اخیہ
لیرفع بی من خسیستہ قال فجعل الامر اليها فقلت الی تدراجزت ما
صنم ابی، ولكن اردت ان تعلم النساء ان لیس الی الاباء من الامر شیء۔
نسائی احمد نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ ایک رٹک بنی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول امیر
باپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا بیاہ صرف اس لیے کر دیا ہے کہ میرے ذریعے
جسے ذات ہے نہیں۔ آپ نے نکاح رکن فتح و استقرار (کا حق رشک کو درے
دیا) رشک نے کہا، میرے والدے جو کچھ کیا ہے میں اُسے جائز قرار دتی ہوں، میری خواہ
صرف یقینی کہ عورتیں جان لیں کہ باپوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے
(۲) اہل حدیث حضرات اپنی تائید میں مندرجہ ذیل احادیث پیش کرتے

ہیں :

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم
اشترىوا فالسلطان ولهم من لا دليل لها - (بلوغ العالم)
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بنی حیلۃ الرمیم نے فرمایا جو عورت بھی اپنے
ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اُس کا نکاح ہاصل ہے..... پس اگر جھگڑا اونو ہو تو
جب عورت کا ولی نہ ہو تو سلطان اس کا دليل ہے -
عن أبي موسى عن أبي عبد الله قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
نكاح إلا بولي رالبيضا

ابو موسیٰ اپنے والدے سے تقاضا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا : "ولی کے بغیر نکاح نہیں جائز نہیں ہے" -
عن أبي هريرة قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج
المؤذنة ولا تزوج المرأة نفتها - (رسن کبوئی للبيهقي)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کی (وَلی بن کر) نکاح نہ کرے، اور نہ کوئی عورت خود اپنے نکاح کرے۔

قال عمر ابن الخطاب ایسا امر اے کہ ممکن کچھا الوفی او الولوی فنا کا حدا

با طل - (الیضا)

حضرت عمرؓ نے فرمایا جس عورت کا نکاح دلی یا حکام نہ کریں اس کا نکاح باطل ہے۔

عن عكرمة ابن خالد قال جدت امراة ثيتب امرها بيد رجل غير ولية فانكلعها فبلغ ذلك عمر فجدد النكح و المسنكح درجة نكاحها -

(الیضا)

عکرمه ابن خالد سے روایت ہے کہ ایک شوہر بیدہ عورت نے اپنے معاملہ ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا جو اس کا ولی نہ تھا اور اُس شخص نے عورت کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمرؓ کو اس کی لطلاع ہوئی تو اپنے نکاح کرنے اور کرنے والوں کو ابزاری اور نکاح مسوخ کر دیا۔

عن علي قال ايم امراة مكتحت بغير اذن وليه انكاحها باطل لأنكاح الا باذن ولبي.

حضرت علیؓ نے فرمایا جس عورت نے بھی اپنے دل کے اذن کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ بل اجازت دل کوئی نکاح نہیں۔

عن الشعبي ان عمر وعليا رضي الله عنهمَا وشرميجا ومسروقا

رَحْمَةً إِلَهَ قَالُوا لَا نَكَحُ الْأَبْوَالِ (الْيَصَا)

اہم شعیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ، حضرت ہر خدا، شریفؒ احمد سردقؒ نے فرمایا کہ بدل کے بغیر بودلی نکاح نہیں ہے۔

ان دلائل پر ایک نکاح ڈالنے سے ہی یہ مسوں ہو جاتا ہے کہ دونوں طرف کافی فذن ہے اور یہ کہنے کی عجیب لش نہیں ہے کہ فرقین میں سے کسی کام سکھ بالکل غلط ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شارع نے فی الواقع رضاختدار حکم دیتے ہیں؟ یا ایک حکم کو دوسرا حکم فسروخ کرتا ہے؟ یا دونوں حکموں کو دلاکر شارع کا فتشا صحیک طور پر تحقیق ہو سکتا ہے؟ پہلی شق تو صریحاً باطل ہے۔ کیونکہ شرعاً نیت کا پورا نظام شارع کی محبت کا ملہ پر دلالت کر رہا ہے اور حکیم سے رضاختدار حکم کا صدر نیک نہیں ہے۔ دوسری شق بھی باطل ہے کیونکہ شرع کا کوئی ثبوت یا فریب موجود نہیں ہے۔

اب صرف پیری ہی صورت ہاتھ رہ جاتی ہے اور یہی اسی کی تحقیق کرنی چاہیے۔

میں دونوں طرف کے دلائل کو جمع کر کے شارع کا جو مشاہد کہہ سکا ہوں وہ یہ ہے:

۱۔ نکاح کے متعلق میں اصل فرقین مرد اور عورت ہیں نہ کہ مرد اور ادیائی۔

عورت۔ اسی بناء پر ایجاد و قبول ناکر اور مشکوٰحہ کے دل میان ہوتا ہے۔

۲۔ بالغہ عورت رہا کرہ ہو یا ثقیہ (کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر یا اس کی رضی کے خلاف منعقد نہیں ہو سکتا، خواہ وہ نکاح کرنے والا باپ ہی کیوں نہ ہو۔

جن نکاح میں عورت کی طرف سے رضامہ ہو، اس میں بھرے سے ایجاد ہی موجود نہیں ہوتا کہ الیاذ نکاح منعقد ہو سے۔

۴۔ مگر شارع اس کو بھی جائز نہیں رکھتا کہ عورت میں اپنے نکاح کے معاملے میں انکل ہی خود مختار ہو جائیں، اور جس قسم کے مرد کو چاہیں لپنے اولیاً رکھنی کے خلاف اپنے خاندان میں داد دی کی حیثیت سے گسلائیں۔ اس لیے جہاں تک عورت کا تعلق ہے شارع نے اُس کے نکاح کے لیے اس کی اپنی مرضی کے ساتھ اس کے دل کی مرضی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ ز عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ذلی کی اجازت کے بغیر جہاں چاہے اپنا نکاح کر لے، اور نہ ذلی کے لیے جائز ہے کہ عورت کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح جہاں چاہے کر دے۔
۵۔ اگر کوئی ذلی کسی عورت کا نکاح بطور خود کر دے تو وہ عورت کی مرضی پر معدۃ ہو گا، وہ منتظر کرے تو نکاح قائم رہے گا، نامتنظر کرے تو معاملہ عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت تحقیق کرے گی کہ یہ نکاح عورت کو منتظر ہے یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کو نکاح نامتنظر ہے تو عدالت اسے باطل قرار دے گی۔

۶۔ اگر کوئی عورت اپنے ذلی کے بغیر اپنا نکاح خود کر لے تو اس کا نکاح ذلی کی اجازت پر متعلق ہو گا۔ ذلی منتظر کرے تو نکاح بد قرار رہے گا، نامتنظر کرے تو یہ معاملہ بھی عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت تحقیق کرے گی کہ فل کے اعتراض دانہاں کی بنیاد گیا ہے۔ اگر وہ فی الواقع معقول وجہ کی بنیاد پر اس مزد کے ساتھ اپنے گھر کی لڑکی کا جوڑ لپسند نہیں کرتا تو یہ نکاح فتح کیا جائے گا اور اگر یہ ثابت

ہو جائے کہ اس بحث کا نکاح کرنے میں اس کا دل و نسبتہ تسلیم کرتا رہا، یا کسی ناجائز غرض سے اس کو مالکا رہا اور بحث نے ننگ اگر انہا نکاح خود کر لیا تو پھر ایسے ذمی کو سیئی الاختیار شہیر ادا جائے گا اور نکاح کو عدالت کی سند جواز دے دی جائے گی۔ حذا ماعندهی و ادله اعلم بالصواب۔

شادی بیاہ میں کفارت کا لحاظ

سوال ۱۔

ترجمان القرآن ہبہت ذمی القدرہ ذمی الجہش ^{۱۳۶} میں آپ نے مولانا نظر احمد صاحب شفافی کے جواب میں ایک بجد ایسے تمثیل سے کام لیا ہے جو زادہ بدل برداشت ہے۔ مولانا موصوف نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ میں کیا ایک سید نہ دوستان میں رہنے کی وجہ سے سید نہ ہے گا بلکہ جلاہن جائے گا؟ میری حیرت کی انتہاء رہی کہ آپ نے بھی جواب میں ربی نہ ہاں سے اس غیر اسلامی انتہاء کو یہ کہہ کر تسلیم کر لیا کہ "دارالکفر کے ایک سید صاحب" دارالاسلام کی ایک سیدانی کے باقیاء لسب کفوہی ہی: آپ کے الفاظ مبهم ہیں۔ کیا آپ بھی مندہ کفوہ کو اسلام میں جائز سمجھتے ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو آپ قرآن و حدیث سے استشہار پیش فرمائے میرا الحینان فرمائیں۔ سمجھو میں نہیں آیا کہ دنیا کے کام کا ج اور ملکیوں کو انسانیت کی اور پنج نیچ میں کیوں دخل ہو؟

بنی نورِ افسون سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کیا حضرت ماذد علیہ السلام نے اگر لوہے کا سام کیا ہے تو وہ لوہا رکھنے لگے گے؟

جواب:-

آپ نے کفارت کے مسئلے پر جو اغتراف کیا ہے اس سے مجھے الفاق نہیں ہے۔ طرز تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفس مسئلہ کفارت تو عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہے۔ تفصیلات سے قطع نظر، بھائے خود نکاح میں اس کے معتبر بہرے نے پر الحہ ارجعہ کا الفاق ہے۔

اس مسئلے کا مأخذ متعدد احادیث ہیں۔ مثلاً:-

لَا تَنْكِحُوا النَّسَارَالاَلَاكْفَارُ۔ حورتوں کی شاییاں نہ کر دیگر
(دارقطنی، بیہقی)

يَا عُوْذُ بِرَبِّنَا لَا تُؤخِّذْهَا
الصَّوْتُ إِذَا أَتَتْ وَالْعِنَازُ
إِذَا حَضَرْتَ وَاللَّامِ إِذَا
وَجَدْتَ كَفَاءً۔

ر ترمذی حاکم) دن بیا ہی حورت کا نکاح جبکہ
اس کے بیے کھوں جائے۔

تَخِيرُهَا لِنَظْفَكَمْ رَانَكُهُوا
كُفَاءً
اپنی نسل پیدا کرنے کے بیے
اچھی حورتیں تلاش کرو، اور
اپنی حورتوں کے نکاح ایسے

لوگوں سے کرو جوان کے کفو

ہوں۔

ریہ حدیث حضرت عالیہ، انس، علی بن الخطاب رضی اللہ عنہم سے متعدد
ملحقوں سے مردی ہے)

میں شریعہ مکاروں کی عورتوں کے
لامعنون نر درج ذراست
نکاح کفو کے سوا کہیں اور نہ کرنے^{الا حساب الام من الافکار}

بھول گا۔

یہ تو ہے اس مسئلے کی نقل دلیل۔ رہی عقلی دلیل، تو عقل کا صریح تقاضا یہ ہے
کہ کسی رذ کی کوئی شخص کے نکاح میں میتے وقت یہ دیکھا جائے کہ وہ شخص
اس کے جوڑ کا ہے یا نہیں۔ اگر جوڑ کا نہ ہو تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان
دوں کا نبیاہ ہو سکے گا۔ نکاح سے مقصود تو عقلابی اور نقلابی یہی ہے کہ
زوجین کے میان مودت و محبت ہو اور وہ ایک درست کے پاس
سکون حاصل کر سکیں۔ آپ خود سوچ لیں کہ یہ جوڑ نکاحوں سے اس مقصود کے
حاصل ہونے کی کہاں تک توقع کی جاسکتی ہے؟ اور کون سا معقول انسان
ایسا ہے جو اپنے رذ کے پاؤڑ کی کا بیاہ کرنے میں جوڑ کا لحاظ نہ کرتا ہو؟
کیا آپ اسلامی صادرات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مرد کا ہر عورت سے
اور ہر عورت کا ہر مرد سے صرف اس بنا پر نکاح کر دیا جائے کہ دونوں
مسلمان ہیں، بلاؤ اس لحاظ کے کہ ان میں کوئی مناسبت پائی جاتی ہے یا نہیں؟
فقہاء نے اس جوڑ کا مفہوم مشخص کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہ

نے اپنے اپنے طریقے پر یہ بتایا ہے کہ نہ کی اور نہ کے کے درمیان کن کن امور میں مذاہمت ہوئی چاہیئے۔ ہم ان تفصیلات میں بعض فقہاء سے اختلاف اور بعض سے تفاوت کر سکتے ہیں۔ مگر فی الجملہ عقلِ حامم پر تعاضا کرتی ہے کہ زندگی بھر کی شرکت درفاقت کے لیے جن دو سہیوں کا ایک دوسرے سے خود لایا جائے ان کے درمیان اخلاق، دین، خاندان، معاشرتی طور طریق، معاشرتی حرمت و حیثیت، مال حالات، ساری ہی چیزوں کی مذاہمت دیکھی جائی چاہیئے۔ ان امور میں اگر پوری بیساں نہ ہو تو کم از کم اتنا تفادوت بھی نہ ہو کہ زوجین اُس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ فیکت اور فاقت نہ کر سکیں۔ یہ انسانی معاشرت کا ایک عملی مسئلہ ہے جس میں محنتِ عمل کو محدود رکھنا ضروری ہے۔ آدم کی ساری اولاد کے بیساں ہونے کا نظر یہ آپ یہاں چلانا چاہیں گے تو لاکھوں گھر بساد کر دیں گے۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ بعض نسل و بیل بنا پر ذلت بات اور اونچی بیچ کا تصور ایک جاہل تصور ہے، تو اس بات میں یقیناً میں آپ سے تفاوت کر دیں گا۔ جن لوگوں نے کفارت کے نقیبی مسئلے کو منع کر کے ہندوؤں کی طرح کچھ اور پی اور کچھ نیپی ذائقیں قرار دے رکھی ہیں ان پر مجھے بھی دلیا ہی اغراض ہے جیسا آپ کو ہے۔

در ترجمان القرآن۔ فی الجہش ۱۳۶۱۔ ستمبر ۱۹۵۲ء

نکاح شفuar

سوال ۔ ۱

مسلمانوں میں علوماً راجح ہو گی ہے کہ رد شفuar باہم رہ کوں اور لڑکیوں کی شادی اُول بدل کے اصول پر کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی اشخاص جل کر اس طرح کا اُول بدل کرتے ہیں۔ مثلاً نزدیک بر کے رٹکے کے ساتھ، بکرہ ملکے رٹکے کے ساتھ احمد غفرنیہ کے رد کے ساتھ اپنی رٹکیوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ان صورتوں میں جموہ اہل کی ایک ہی مقدار ہوتی ہے۔ بعض جملائے دین اس طریقہ کو شفuar کہتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ شفuar کو نبی صل اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بلکہ حرام قرار دیا ہے۔

حالات موجودہ ایک غریب آدمی یہ طریقہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ جس آسانی سے درستے لوگ اس کی رٹکی کو قبول کر لئے پہ تیار ہوتے ہیں اس آسانی سے اس کے رٹکے کو رشتہ دینے پر تیار نہیں ہوتے۔

بداؤکرم اس مسئلہ کی حقیقت واضح فرمائیں۔

جواب ۱۔

عام طور پر اُسلے بد لے کے نکاح کا ہو عرضہ بمارے ملک میں راجح ہے وہ دراصل اُسی شفuar کی تعریف میں آتا ہے جس سے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے

منع فرمایا ہے۔ شفار کی تین صورتیں ہیں اور دو سب ناجائز ہیں۔

ایک یہ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس شرط پر اپنی لڑکی سے کہ دو اس کو بدلے میں اپنی لڑکی دے گا اور ان میں سے سہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کا میر قرار پائے۔

دوسرے یہ کہ شرط تو دو ہی اور لے بدلے کی ہو مگر دونوں کے برابر برابر مہر رہلا۔ ۵،۰۰۰ ہزار روپیہ، مقرر کیے جائیں اور بعض فرضی طور پر فرقیں میں ان مادی رقموں کا تبادلہ کر لیا جائے۔ دونوں لڑکیوں کو علاوہ ایک پیسہ بھی نہیں۔

تیسرا یہ کہ اور لے بدلے کا معاملہ فرقیں میں صرف زبانی طور پر ہے مگر بکر ایک لڑکی کے نکاح میں دوسری لڑکی کا نکاح شرط کے طور پر شامل ہو۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو بھی صورت اختیار کی جائے مگر، شرعاً کے خلاف ہوگی۔ پہلی صورت کے ناجائز ہونے پر تو تمام فقہاء کااتفاق ہے۔ البتہ باقی دو صورتوں کے معاملہ میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ لیکن نہیں دلائل شرعیہ کی بناء پر یہ اطمینان حاصل ہے کہ یہ تینوں صورتیں شفارہ منوع کی تعریف میں آتی ہیں اور تینوں صورتوں میں اُس معاشرتی فادر کے اہاب بیگان طور پر موجود ہیں جن کی وجہ سے شفار کو منع کیا گیا ہے۔

ر ترجمان القرآن رجب، شعبان ۱۴۲۲ھ۔ اپریل، مئی ۱۹۵۲ء



منگنی کا شرعی حکم

سوال ۱۔

یہ شرعی بحاظ سے خطبہ نکاح کا حکم رکھتا ہے، حوالہ اس کو ایسا بڑے قبول کا درجہ دیتے ہیں۔ اگر رشکی کے والدین شیرخی ہوئی بات کو رد کرنے تو ہذا ددی میں ان کا مقام طرف تک ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں الگ والدین اس رشکی کا نکاح دوسرا بجھ کر دیں تو کیا یہ فعل درست ہوگا؟

جواب ۱۔

منگنی بعض ایک قول و اقرار ہے اس بات کا کہ آئندہ اس رشکی کا نکاح فلاں شخص سے کیا جائے گا۔ یہ بجا نے خود نکاح نہیں ہے۔ البتہ فرقین کے درمیان ایک طرح کا ہدایہ و پیمان ضرور ہے جس سے پھر جانا درست نہیں، الایہ کہ اس کے لیے کوئی معقول وجہ موجود ہے۔ اگر منگنی کے بعد فرقین میں سے کسی ایک پر دوسرے کا کوئی ایسا عیب ظاہر ہو جو پہلے معلوم یا چھپا یا گی تھا، تو بلاشبہ اس قول و اقرار کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کی کسی معقول وجہ کے بغیر یونہی اسے ختم کر دینا، یا کسی غیر معقول وجہ کی بناء پر اس سے پھر جانا ہرگز جائز نہیں۔ دوسری ہدایہ لپیں کی طرح یہ بھی ایک بد ہدایہ ہے جس پر السان خدا کے ہوں جواب دہ ہو گا۔

کیا برقع پسندی کا مقصد پورا کرنا ہے؟

سوال ۱۔

احقر ایک مدت سے زہنی اور قلبی لمحوں پر آپ کی تحریک آئامت دین سے والستہ ہے۔ پر وہ کے مسئلے پر آپ کے انکار بر عالیہ پڑھ کر بہت خوشی ہدی۔ لیکن آخر میں آپ نے مرد جب برقع کو بھی (المسعوف) کیا ہے۔ اس کے متعلق دو ایک باتیں دل میں کشکتی ہیں۔ بدرو جہڑاں ان پر رکھنی ڈال کر مشکورہ فرمائیں۔

پردے کی غایت صنفی میلان کی انتشار اپنے دنی کو روکنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میلان ہر دو اصناف میں پایا جاتا ہے (گودنوں میں فرقہ کی نوعیت سے انکار نہیں)۔ اسی وجہ سے پردے کی اصل روح — غصہ بھر کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ برقع کی "دیوار" کے پیچے چورتوں کی بہت شدی اکثریت "نگاہ کے زدا" کی ترکب ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ اطمینان (Satisfaction) ہوتا ہے کہ ہم تو مردوں کو دیکھ رہی ہیں لیکن مرد ہیں نہیں دیکھ رہے، اور نہ ہماری اس نظردارہ بازی کا ملزم ہی کسی کو ہے۔ سو اس طرح کی خواتین میں جو ہر جیسا — منفعت ناذک کا اصل جو ہر — بہت کم پایا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں برقع اور دو کرائیں اوس طبقاً معاشری دسائل کے کنبہ کی

عورتیں اپنے کام کا ج بھی کا حق، انہم نہیں دے سکتیں۔ سفری کو
لیجئے، چماڑیوں اور بسروں دریوں میں پڑھنا اور اتر، بر قع لوپش عورت
کے لیے خطرہ سے خالی نہیں ہوتا۔

پرده — "مکمل پرده" — کی اہمیت و معمولیت سے قطعاً
انمار نہیں کیا جاسکتا، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہو جا کہ مرد جو بر قع کے بجائے اور
کوئی مزدور تر طریقہ استعمال ہو۔ شال کے طور پر آج سے چند سال پیش
تک دیہات کی شریعت عورتیں خود کو ایک چادر میں مستور کرتی تھیں۔ چادر
میں وہ یہ چرات ذکر ساختی تھیں کہ کسی مرد کو مسلسل و متعین اور ان کی آنکھوں
میں شرم دیجایا کا بہت اقلیٰ منظاہر ہوتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ موجودہ بر قع
کی نسبت اس چادر میں بہت اچھی طرح "پرده" ہوتا تھا۔
آپ کی مصروفیات کے علم کے باوجود آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔

جواب:-

آپ نے اپنے سوال میں کہی چیزوں کو خلط ملطک کر دیا ہے۔ بہتر ہو کر ایک
ایک چیز کو آپ اگلے لیں اور پھر اس پر سور کر کے لائے قائم کریں۔
پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ کیا خصت بصر کی تھیں اور اخلاقی تربیت کے
بغیر یہ ملک ہے کہ کوئی عورت کسی غیر مرد کو گھورنے سے روکی جاسکے؟ آپ
بر قع کی ناقاب پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ صرف مرد کو عورت پر لگاہ ڈالنے سے
روکتی ہے، عورت کو اس ناجائز نظر بازی سے نہیں روکتی۔ مگر یہ حیث تصرف
نقاب میں نہیں ہے، چادر میں بھی ہے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ

عجولت چاہدے سے منہ ڈھانک کر جب باہر نکلے تو اُسے راستہ دیکھنے کے لیے کم از کم اتنی جگہ کھلی رکھنی چاہیئے کہ اس کی آسمانوں سامنے دیکھو سکے۔ پھر یہ عصیب چلن میں بھی ہے جو آپ اور وادیوں اور کھڑکیوں پر ڈالتے ہیں۔ بلکہ یہ عصیب ہر اس چیز میں ہے جس سے کوئی عورت باہر جھانک سکتی ہو۔ آپ خود تھا میں کہ ان منافذ کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور کیا فی الواقع شریعت کا بھی یہ مطابق ہے کہ ان سب منافذ کو روکا جائے؟ علاوہ بسیں اسی کتاب پر درہ میں بھی نے دہ رداشت نقل کی ہے جس میں یہ بھاہے کہ بنی حیلہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہؓ کو جوشیوں کے کھیل کو روکا تماشہ دکھایا تھا۔ وہاں میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مردوں کا عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کا مرد دل کو دیکھنا نہ شرعاً ہا نکل سکیا۔ اور نفیت کے اعتبار سے ان کی حیثیت مذکور ہے۔

دوسرا غور طلب بات یہ ہے کہ اگر برق بجائے خود بھر کیا اور جاذب نظر نہ ہو، سادہ اور بے زینت ہو تو شرعاً اس پر کس اعتراض کی گنجائش ہے؟ کیا وہ شریعت کے کسی مطابق کو پورا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی دوسرا چیز اس سے بہتر طریقہ پر شریعت کے مذاکو پورا کرتی ہو۔ ایسی کوئی چیز آپ کی نگاہ میں ہے تو آپ اسے تجویز کر سکتے ہیں مگر برق کو ناجائز کہنا کسی طرح مددست نہیں۔

بر قع اور کہ پہنچنے پھرنے اور لبوں وغیرہ پر پڑھنے کے سلسلے میں

آپ جو مشکلات بیان کرتے ہیں وہ جواز و عدم جوانہ کی بحث سے غیر متعلق ہیں۔ آپ کے نزدیک چار میں اس سے کم مشکلات ہیں یا کسی قسم کی مشکلات ہیں ہیں تو خواتین کو اس کی طرف توجہ دلائیں۔ وہ تجربہ سے اُسے مناسب پاییں گی تو کیوں نہ اختیار کریں گی۔

ترجمان القرآن شعبان شمسیہ ۱۳۶۰ھ - مطابق جون ۱۹۵۱ء

عورت اور سفر حج

سوال ۱۔

عورت کے محرم کے بغیر حج پر جانے کے بارے میں علمائے کرام کے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ براہ کرم مختلف مذاہب کی تفصیل سے آنکاہ فرمائیں اور یہ بھی تبایہ کہ آپ کے نزدیک قابل ترجیح مسلک کون سا ہے؟

جواب ۱۔

عورت کے بلا محرم حج کرنے کا مسئلہ مختلف فیہے ہے۔ اس معاملہ میں چار مسلک پائے جاتے ہیں جنہیں مختصرًا بیان بیان کیے دیتا ہوں۔

(۱) عورت کو کسی حال میں شوہر یا محرم کے بغیر حج نہ کرنا چاہیے۔

پسک اب اسیم خمی، شعبی اور حسن بھری رہم اللہ سے منقول ہے اور حبیل مذہب ہائی فتویٰ ہے۔

(۲) اگر حج کا سفر تین شبائی روزے کے کم کا ہو تو عورت بلا محرم جاسکتی ہے، لیکن اگر تین دن یا اس سے زائد کا سفر ہو تو شوہر یا محرم کے بغیر نہیں جاسکتی۔ امام ابو حنیفہ "اہد سفیان ثوری کا یہی مذہب ہے۔

(۳) جو عورت شوہر پا محرم نہ کھتی ہو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جاسکتی ہے جن کی اخلاقی حالت قابل المہینان ہو۔ یہ ابن سیرین، عطا، زہری، قتادہ اور اوزاعی رحمہم اللہ کا مسلک ہے اہد امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافعی نے "قابل المہینان فیقوون" کی مزید تشریح اس طرح کی ہے کہ اگر چند عورتیں بھروسے کے قابل ہوں اور وہ اپنے محروم کے ساتھ جا رہی ہوں تو ایک بے شوہر اہد بے محرم عورت باقی کے ساتھ جاسکتی ہے۔ البتہ صرف ایک عورت کے ساتھ اُسے نہ جانا چاہیئے۔

(۴) ان سب کے خوف ابن حزم "ظاہری کا مسلک" یہ ہے کہ بے محرم عورت کو تنہا ہی حج کے لیے جانا چاہیئے۔ اگر وہ شوہر کھتی ہو اور وہ اُسے نہ لے جائے تو شوہر گناہ کار ہو گا مگر عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے بغیر حج کو چلی جائے۔

میں ان چاروں مسلک میں سے تیرے مسلک کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ اس میں ایک دینی فرایض کو ادا کرنے کی گنجائش بھی ہے، اور اُس فتنے کا احتمال بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث میں عورت کے بلا محرم سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔

درافت میں اخیانی بھائی بہنوں کا حصہ

سوال :-

قدوسی رکناب الفراغ، باہب الجب، میں یہ عبارت درج ہے
اُن تواریخ المراۃ زوجا و اما و الحدۃ و اخوات من امر و اخا
من اب دا مر فلزو ج النصف وللام السدس ولا ولاد الامر
الشیث ولا مشیث لاخوات للام دالامر - یعنی اگر ایک عورت
کے دارثوں میں اُس کا شوہر اہم مال یا دادی اور اخیانی (مال شرک) بھائی
اور سگ بھائی موجود ہوں تو شوہر کو آدھ حصہ، مال کو چھٹا حصہ اور اخیانی
بھائی بہنوں کو ایک تھائی حصہ ملے گا اور سچے بھائیوں کو کچھ نہ ملے گا۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا یہ اختلاف کامضی پر قول ہے؟ کیا یہ قرین
الخلاف ہے کہ برادر حقيقی تو محروم ہو جائے اور اخیانی (یعنی مال جائے)
بھائی بہن چھوڑے، تو حضر کی قانونی تعریف بھی واضح فرمائیں۔ کیا ولدہ
اور دادی کے زندہ ہونے کے باوجود ایک میت کو کلالہ قرار دریافت
سکتا ہے؟

جواب :-

قدوسی سے جو مسئلہ آپ نے نقل کیا ہے، اس میں سلفت کے مابین اختلاف
ہے۔ اگر کوئی عورت مرجاۓ اور پچھے شوہر مال سچے بھائی بہن اور اخیانی
زینی مال جائے، بھائی بہن چھوڑے، تو حضرت علیؓ، ابو موسیٰ اشعري اور ابلیؓ این

کعب رضی اللہ عنہم کا فتویٰ یہ ہے کہ اُس کی نصف میراث شوہر کو پڑاں کو اور نہ اخیانی بھائی بہنوں کو دیا جائے گا اور سچے بھائی بہنوں کو کچھ نہ ملے گا۔ اسی فتویٰ کو علامے اخفاٹ نے یا ہے اور یہ ان کا مفتی ہے قول ہے۔ بخلاف اس کے حضرت عثمانؓ اور حضرت زید بن ثابت کا یہ مذہب ہے ہے کہ پڑا میراث سچے اور اخیانی بھائی بہنوں میں برابر پارہ تقسیم کی جائے گی۔ حضرت عفرؓ ہے قول اول کے قائل تھے مگر بعد میں انہوں نے قول ثانی اختیار کر لیا۔ این عجائبؓ سے درود لئی مردی ہی، مگر زیادہ معتبر ردایت یہی ہے کہ ذہبی قول ثانی کے قائل تھے۔ اسی پر قاضی شریحؓ نے فیصلہ کیا ہے اور امام شافعی، اہم، اکف اور سفیان ثوری رحمہم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ حنفیہ کا استدلال یہ ہے کہ اخیانی بھائی بہن ذہبی الفرض میں اور سچے بھائی بہنوں میں تو عصبات کو کرنی حق نہ پہنچے گا۔

و دریے گردہ کا استدلال یہ ہے کہ ماں جائے ہونے میں جب سچے اور اخیانی بھائی بہن بھیال میں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ برلن کے حصے دار نہ ہوں۔
کالہ کے جو معنی حضرت ابو بکرؓ نے بیان فرمائے ہیں اور جنہیں حضرت عفرؓ نے بھی قبول کیے ہے؛ من لا ولد لہ ولاد والد۔ یعنی کلالہ وہ ہے جس کی اولاد ہو اور نہ ہاپ۔ اسی طرح ماں یا داری کی موجودگی کسی میت کے کلالہ ہونے میں مانع نہیں ہے۔

محترمات کی حُرمت کے وجہ

سوال ۔ ۱

چند روز سے رفقاء کے درمیان محترمات کے سلسلے میں ایک مسئلہ
زیر بحث ہے جو میں ذیل میں تحریر کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ازدواج
کرم اس پر روشنی ڈال کر شکور فرمائیں گے۔

مندکھٹ کے سلسلے میں ایک مورت اور دوسری عورت میں کیوں اتنا
کیا گیا ہے کہ بعض کو مقدمیں لا یا جا سختا ہے اور بعض محترمات کی فہرست میں
آتی ہیں؟ اگرچہ اتنا نئے انسانیت میں الیک کولی قید نظر نہیں آتی ہے جیسا کہ
ہابل اور قابل کے قصے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟
کیا اس قسم کی شایدیاں جیاتیا تی مفاسد کا موجب بھی بن سکتی ہیں؟
امید ہے کہ آپ اس کا جواب ترجمان القرآن میں شائع فرادیں گے
تاکہ دیجو حضرات کے لیے بھی استغفار و کا باعث ہو۔

جواب ۔ ۱

محترمات کی فہرست میں جن عورتیں کوشال کیا گیا ہے، ان کے حرام ہونے
کی ہونے کی اصل وجہ جیاتیا تی حقائق نہیں ہیں بلکہ اخلاقی اور معاشرتی حقائق ہیں۔
آپ خود غور کریں کہ جس ماں کے شہوانی جذبات بھی اپنے بیٹے سے متعلق ہو سکتے
ہوں کیا وہ اُن پاکنیزہ و مظہر جذبات کے ساتھ بیٹے کو پال سکتی ہے جو ماں اور بیٹے
کے تعلقات میں ہونے چاہئیں؟ اور کیا بیٹا ہوش سنپھالنے کے بعد ماں کے ساتھ

وہ مخصوصاً ذبیحے کے تکلفی برداشت سکتا ہے اور بیٹھے کے درمیان اب ہوتی ہے؟ اور کیا ایک گھر میں باپ اور بیٹھے کے درمیان رفتاری اور حسد کے جذبات پر بیان ہو جائیں گے اگر ماں اور بیٹھے کے درمیان ابڑی حرمت کی دیوار حائل نہ ہو؟ ایسا ہی معاملہ ہےن اور جو ابڑی کامبی ہے۔ اگر ابڑی حرمت ان کے درمیان قائم نہ ہو تو کیا یہ ممکن تھا کہ جو ابڑی ہےن ایک دوسرے کے ساتھ مخصوص روابط اور شہوات سے پاک نیت اور شہادت سے بالاتر بے تکلفی برداشت سکتے؟ کیا اس صورت میں بھی یہ ممکن ہوتا کہ والدین اپنے بیٹوں کو اس طور غر کے قریب پہنچنے پر ایک دوسرے سے دُور رکھنے کی کوشش نہ کرتے؟ اور کیا کوئی شخص بھی کسی لڑکے سے شادی کرتے وقت یہ اطمینان کر سکتا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے بھی ہوئی ہوگی؟ پھر اگر خسر اور بہو کے درمیان، اور ساس اور داماد کے درمیان ابڑی حرمت کی دیواریں حائل نہ کر دی جاتیں تو کس طرح ممکن تھا کہ باپ اور بیٹھے اور ماں اور بیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ رقباً دشمنکش میں تباہ ہونے اور ایک دوسرے کو شہبہ کی تھرے سے بیخ نہیں سے پنج جائیں؟

اس پہلو پر اگر آپ ملود کریں تو آپ کی سہم میں آجائے گا کہ شریعت نے کن اہم اخلاقی و معاشرتی مصلحتوں کی بنیاد پر اُن تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دھرم کے لیے حرام کر دیا ہے جن کے درمیان ایک گھر، ایک خاندان اور ایک دائمہ معاشرت کے اندر قریب ترین روابط اور بے تکلف روابط فطرت ایک ہو گئے ہیں اور معاشرتی ضروریات کے لحاظ سے ہونے چاہیں۔ بیٹھے اور بیٹیاں پہلی نہیں سکتیں اگر ماں اور باپ دونوں اس طرف سے بالکل مطہر، نہ

ہوں کہ ان میں سے کسی کا بھی کوئی شہروانی علاقہ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک ہی گھر میں لڑکوں اور لڑکیوں کا پنا غیر ممکن ہو جائے۔ اگر بین کے معاملہ میں بھائیوں کے درمیان اور بھائی کے معاملہ میں بہنوں کے درمیان شہروانی رفتاریں پیدا ہوئے کا حد و اوزہ قطعی طور پر نہ ہو۔ خالا بیٹیں اور بھوپھیاں اور جھپا اور داموں اگر شبہ سے ملاقت کر دیئے جائیں تو بہن اپنی اولاد کو اپنے بھائی بہنوں سے اور بھائی اپنی اولاد کو اپنے بھائی بہنوں سے بچانے کی فکر میں لگ جائیں۔

ترجمان القرآن، ذی القعدہ، ذی الحجه ۱۳۴۰ھ۔ ستمبر ۱۹۵۱ء

عورتوں میں سہم جنسیت

سوال ۱۔

ان دلوں زنانہ کا بھوں کی سوم فضیلہ لڑکیوں کے اندھیب دبائیں پھیل رہی ہیں۔ بالعموم دلارٹکیوں کی دوستی خلوص اور محبت کی حدود سے گزر کر جنسی محبت کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ شرعاً یہ کس دلیلے کا گناہ ہے؟ کبیرو یا صغیرہ؟

جواب ۱۔

مرد اور مرد کی جنسی محبت جتنا بہر آگناہ ہے، عورت اور عورت کی محبت بھی آنہا ہی بڑا گناہ ہے۔ اخلاقی جنسیت سے ان دلوں میں نہ نوعیت کا فرق ہے اور نہ درجے کا۔ افسوس ہے کہ یہ نہاد "ارب الطیف" جو رسالوں اور

افسانوں اور نادلوں کی شکل میں گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور یہ تمثیل تصویریں اور فلم جنہیں آزادی کے ساتھ مردوں کی طرح عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، اور یہ اختلاط مرد و زن جس کو روز بروز ہماری سوسائٹی میں فروع غصبہ ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں نے مل جمل کر نوجوان مردوں کی طرح نوجوان لڑکوں کو بھی غیر ممول جذباتی بیجان میں مبتلا کر دیا ہے۔ شہوانی جذبات کی ایک بھٹی ہے جو اتنیوں میں بھڑکا دی گئی ہے اور بہت سی دھونکنیاں ہر آن اسے زیادہ اور زیادہ بھڑکانے میں گی ہوتی ہیں۔ اس کا تجھہ یہ ہے کہ جو لیکاڑا اب تک زیادہ تر مردوں میں پایا جاتا تھا، وہ ایک دباؤ کی طرح شریعت گھروں کی لڑکوں اور درستگاہوں کی طالبات اور اندھستانیوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ جن خواتین کو زنانہ درستگاہوں کے حالات قریب سے دیکھنے کا موقع ٹالا ہے ان کی اخلاق یہ ہے کہ آج لڑکوں میں جو سبھے چاٹی، بیباک، جنسی مسائل پر کھل کھل گفتگو کرنے کی براحت اور جنسی رجمانات — فطری اور غیر فطری، ہر د طرح کے رجمانات — کے انہمار داعلان کی عام جسمارت پائی جاتی ہے، چند سال پہلے تک اس کا تصور کرنا مشکل تھا۔ اب لڑکوں میں یہ پھر سچے عام ہو گئے ہیں کہ کوئی صاحبزادی کس اُستانی کی منظور نظر ہیں، اور کوئی صاحبزادی کس دسری صاحبزادی کے عشق میں مبتلا ہیں۔

اَللّٰهُ دَاكَا اَلْيَرِ راجُونَ!

لطف یہ ہے کہ اس جہنم کی طرف جو لوگ اپنی قوم کو دیکھیں رہے ہیں، وہ اپنی اب تک کی کوششوں کے نتائج سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ انہیں حسرت یہ ہے کہ کاش ملا کی خلافت و نژادت راہ میں حال نہ ہوتی تو وہ ترقی کے مزید قدم ذرا جلدی

جلدی اٹھا سکتے ہیں!

(ترجمان القرآن، رمضان، شوال ۱۹۵۲ھ۔ جون، جولائی ۱۹۵۲ء)

نیک چلنی کا انوکھا تصور

سوال:-

میں نے ایک دو شیزہ کو لا پائی ریا کہ میں اُس سے شادی کر دیں گا۔ پھر اس کے باقاعدہ خلاف اخلاقی تعلقات رکھے۔ میں نہایت دیانت داری سے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس روٹ کی کے خاندان کی عام عودتیں زانیہ اور بد کار ہیں۔ یہاں تک کہ اُس کی ماں بھی۔ اب مجھے خوف ہے کہ اگر میں اس روٹ کی سے شادی کر دوں تو وہ بھی بڑھن شایستہ نہ ہو۔ ترجمان القرآن کے فدریو سے مطلع یہی رکھ جیسے کہ کرنا چاہیے۔

جواب:-

یہ ایک گناہ خط ہے جو ہمیں حال میں موصول ہوا ہے۔ جو ہم اگذہ خطوط جو آنے کے مستحق نہیں ہو اکرتے۔ لیکن اس کا جواب اس لیے دیا جادا ہے کہ چاری بد قسمت سوسائٹی میں اس وقت بہت سے اپنے وجود ہیں جن کے اندر سائل کی سی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ خود بد کار ہیں مگر شادی کے لیے کوئی الیسی روٹ کی چلہتے ہیں جو غفیف ہو۔ جن ظرف کو انہوں نے خود گندہ کیا ہے، اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے لیے کوئی ایسا ظرف کا شکر تھے ہیں

جسے کسی نے گندہ نہ کیا ہو۔

جانپ سائل سے گزارش ہے کہ جس لڑکی کو آپ نے خود شادی سے پہلے خراب کیا ہے اس کے لیے آپ آپ سے زیادہ موزوں کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ آپ سے زیادہ اندکیں کے لیے موزوں ہو سکتی ہے؟ آپ کو اپنے لیے نیک چلن لڑکی کیوں دو کارہ ہے جبکہ آپ خود بد چلن ہیں؟ جب اس لڑکی نے شادی سے پہلے اپنے جسم کو آپ کے حوالے کیا تھا کیا اُسی وقت آپ کو یہ علوم نہ ہو گی تھا کہ وہ بد چلن ہے؟ پھر آپ کو اب یہ اذلیتیہ کیوں لا حق ہوا کہ آگے چل کر وہ کہیں بد چلن ثابت نہ ہو؟ کیا آپ کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ سے موت ہونا تو نیک چلنی ہے اور بد چلنی صرف رسولوں سے موت ہونے کا نام ہے؟ پھر اس کے خاندان کی عورتوں پر آپ کا اعتراض بھی عجیب ہے۔ وہ خواتینِ کرام جیسی کچھ بھی ہیں، اسی لیے ہیں کہ آپ جیسے معززِ اصحاب سے ان کو سابقہ پیش آتا رہا ہے۔ آپ اگر اس راہ پر بعد میں آئے ہیں تو آخراً پس پیشِ روؤں کے انعام دیئے ہوئے گا زماموں سے اس وجہ نظرت کیوں ظاہر فرماتے ہیں؟ مُساند مانیے، آپ رَسْلُهُ يَا نَادِيَةُ شَفِيكَ اس خاندان میں پہنچ گئے ہیں جس کے لیے آپ موزوں تر ہیں اور جو آپ کے لیے موزوں تر ہے۔ کسی در در سے پاکیزہ خاندان کو خراب کرنے کے بجائے بہتر ہی ہے کہ آپ اُسی خاندان میں پھیر جائیں جس کو آپ جیسے لوگ خراب کر چکے ہیں، اور جسے خراب کرنے میں آپ کا حصہ بھی شامل ہے۔ آخر میں محترم سائل کو قرآن کی دو آیتیں بھی سُن لئی چاہیں۔ پہلی آیت یہ

ہے :

الزاني لا ينفع الا زانية او مشركه والزانية لا
يُنكحها الا زان او مشرك وحرم ذالك على المؤمنين
(النور -)

زنی مرد نکاح نہیں کیا کرتا مگر ایک زانیہ یا مشرکہ عورت سے ہے، اور
زانیہ عورت سے نکاح نہیں کیا کرتا مگر ایک زانی اور مشرک اور ایسا کہ
مؤمنین پر حرام ہے۔

اس آیت میں ”نکاح نہیں کیا کرتا“ سے مطلب یہ ہے کہ زانی مرد اس
لائق نہیں ہے کہ اس کا نکاح زانیہ یا مشرکہ کے سوا کسی اور سے ہو۔ اور زانیہ
عورت کے لیے اگر کوئی شخص محدود ہے تو زانی یا مشرک مرد، نہ کہ کوئی مون
صالح۔

دوسری آیت یہ ہے :

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ج و
الطيبات للطيبين والطيبون للطبيبات -

بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں اور بدکار عورتوں کے
لیے۔ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ
عورتوں کے لیے۔

نیک بھی عجیب ہے !

سوال :

مجھے آپ کی تحریک سے ذاتی طور پر نقصان پنج رہا ہے۔ میری ایک بہن آپ کی جماعت میں شامل ہو گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جوں بدال گئی ہے۔ ہر وقت نماز، تسبیح، وعظ اور بصیرت سے کام ہے۔ گھر کے افراد کو رہنمائی آپ کا ترجمہ قرآن سناتی ہے۔ اگرچہ تعلیم بافتہ ہے لیکن خیالات کے اعتبار سے وہ موجودہ زمان کی لڑکی نہیں رہی۔ بہاس سارہ اور سفید پنچتی ہے۔ جس دن دل چاہنے روزہ رکھ لیتی ہے۔ میں اس کے اس طرز سے نہایت پرشیان ہوں۔ رشتہ داروں میں جو سنتا ہے وہ اس یہے رشتہ پر آمدہ نہیں ہوتا کہ رات دن وعظ کون سُنے۔ پھر تو میری خالہ آئی تھیں، ان کو بھی یہ بصیرت کرنے لگیں۔ چند کتابیں اور ایک کینڈر آپ کے ہاں کا انہیں دے دی دیا۔ سکل اوارقا۔ ہم لوگ سیر کے لیے گئے، اس سے بہت کہا گریے نہیں گئی۔ بالکل دیوں کی سی زندگی ببر کرنے کے لیے اس ماحول میں آفریں طرح گنجائش پیدا کی جائے۔ نہ تو اس کی شادی اس طرح ہو گئی ہے اور نہ اس کے خیالات بدلتی میرے یا کسی کے لیس میں ہے۔ اگر اس سے کچھ کہا سنا جائے تو رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ تباہی میں کیا کر دیں؟

جواب:-

اس محدثے میں میں خود بھی بے بس ہوں۔ آپ اپنے طور پر یہ کوشش گئیں
کہ آپ کی ہمیشہ اسلام سے توبہ کر لیں۔

(ترجمان القرآن۔ شعبان، رمضان ۱۴۳۲ھ۔ مئی، جون ۱۹۵۳ء)

مُتفرق مسائل

بیمه کا جواز و عدم جواز

سوال ۱۷

انشوریں کے مٹے میں مجھے تقدیمی ہے، اور میں خود پر بھروسیں نہیں آسکا کہ آیا بھیر کر ان اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے یا ناجائز؟ اگر بھی کام موجودہ کار دبار نا جائز ہو تو پھر اسے جائز بنانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔ اگر موجودہ حالات میں ہم اسے ترک کر دیں تو اس کے لیے میں معاشرے کے افراد بہت سے فوائد سے خردم ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں یہ کار دبار جاری ہے۔ ہر قوم دینے پر انشوریں کی تنظیم کر چکی ہے اور اس سے منفید ہو رہی ہے۔ مگر ہمارے ہاں ابھی تک اس بارے میں تامل اور تدبیر پایا جاتا ہے۔ آپ اگر اس معاملے میں صحیح صورت تک رسنگاں کریں تو نہون چولگا۔

جواب :

انشورنس کے ہارے میں شرعِ اسلامی کی رو سے تین اصول اعترافات ہیں جن کی بنا پر اسے جائز نہیں بھیرایا جاسکتا۔

اول یہ کہ انشورنس کپنیاں جو روپیہ (Premium) کی شکل میں دصوں کرتی ہیں اس کے بہت بڑے حصے کو سودی کاموں میں لٹکا کر فائدہ حاصل کرتی ہیں اور اس ناجائز کاروبار میں وہ لوگ آپ سے آپ حصہ لاد بن جاتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو یا اپنی کسی چیز کو ان کے پاس انشور کرلاتے ہیں۔

دوم یہ کہ صوت یا حوارث یا انقصان کی صورت میں جو رقم دینے کی ذمہ داری کپنیاں اپنے ذریعہ میں اس کے اندر قرار کا اصول پایا جاتا ہے۔

سوم یہ کہ ایک آدمی کے مر جانے کی صورت میں جو رقم ادا کی جاتی ہے، اسلامی شریعت کی رو سے اس کی حیثیت مر لئے والے کے ترکے کی ہے۔

جسے شرعی دارثوں میں تقسیم ہونا چلہیے بلکہ یہ رقم ترکے کی حیثیت میں تقسیم ہیں کی جاتی بلکہ اُس شخص یا ان اشخاص کوں جاتی ہے جن کے لیے پالیسی ہو لڈرنے وصیت کی ہو۔ حالانکہ وارث کے حق میں شرعاً وصیت ہی نہیں کی جاسکتی۔

رہائی سوال کہ انشورنس کے کاروبار کو اسلامی اصول پر کس طرح چلا�ا جاسکتے ہے، تو اس کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا یہ سوال آسان ہے۔ اس کے لیے

مزدقت ہے کہ ماہرین کی ایک مجلس جو اسلامی اصول کو بھی جانتی ہو اور انشورنس کے معاملات کو بھی صحیتی ہو، اس پر رے ملنے کا جائز ہے اور انشورنس کے

کاروبار میں الیسی اخلاقیات تجویز کرے جن سے کاروبار بھی چل سکتا ہو اور شریعت کے اصولوں کی خلاف درستی بھی نہ ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہیں کم انکم یہ تسلیم تو کرنے پڑتے ہیں کہ ہم ایک مخلوط کام کر رہے ہیں۔ غلطی کا احساس بھی اگر ہم میں باقی نہ رہے تو پھر اصلاح کی کوشش کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔

یہ شک موجودہ زمانے میں الشورنس کی بُشی اہمیت ہے، اور ساری دنیا میں اس کا چن ہے۔ مگر نہ اس دلیل سے کوئی حرام چیز حلال ہو سکتی ہے اور نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب حلال ہے یا اس سے اس بنابرہ حلال ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کا چن ہے۔ ایک مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جائز دنابھائیں فرق کریں اور اپنے معاملات کو جائز طریقوں سے چلانے پر اصرار کریں۔

ترجمان القرآن۔ اگست ۱۹۶۲ء)

اسلامی حکومت میں خواتین کا دائرہ عمل

سوال:-

کیا اس دلد میں اسلامی حکومت خواتین کو مزدودی کے برابر ایسا سیاسی معاشرتی حقوق ادا کرے گی جبکہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس نے تاریکتِ ترین دلدوں میں بھی عورت کو ایک مقام (States) عطا کیا؟ کیا آج خواتین کو مزدودی کے برابر اپنے دشہ کا حصہ لینے کا

حق ریا جاسکتا ہے؟ کیا ان کو اسکو لوں، کا الجوں اور یونیورسٹی میں
خلوط تعلیم لامردوں کے شانہ بیانہ کام کر کے لک و قوم کی اتفاقادی
حالت پتھر بنانے کی اجازت نہ ہوگی؟ فرض کیجئے اگر اسلامی حکومت
خواتین کو رابر کا حق رائے دہندگی دے اور دو کثرت آزاد سے
ذدارت و صدارت کے عہدوں کے لیے الیکشن رُکر کا میاپ
ہو جائیں تو موجودہ بیوی صدی میں بھی کیا ان کو منصب اعلیٰ کا حق
اسلامی احکام کی رو سے نہیں مل سکتا جبکہ بہت سی شایں آج موجود ہیں
مشق سیون میں وزارت عظمیٰ ایک عورت کے پاس ہے یا نیدر لینڈ میں کی
خاتون ہی محکم اعلیٰ ہے۔ برطانیہ پر ملک کی شہنشاہیت ہے سفارتی
حدنک جیسے عابدہ سلطانہ دختر نواب آن بھوپال رہ چکی ہے اور اب
بیگم رعنایا قوت ٹلی خاں نیدر لینڈ میں سفر ہیں۔ یاد بیگم طرح مزدوجے
مکشی پندرت برطانیہ میں ہائی کشر ہیں۔ اور اقوام متعدد کی صدر رہ چکی ہیں۔
اور بھی شایں جیسے نور جہاں جہانی کی رانی رضیہ سلطانہ، حضرت محل زوجہ
واجد علی شاہ (Woman of Her Household) کہاں ہیں جنہوں
نے انگریزوں کے خلاف بخنوں میں جنگ کر کرائی۔ اس طرح خواتین
نے خود کو پورا اہل ثابت کر دیا ہے۔ تو کیا آج مختصر فاطمہ جناح
صدارت کا عہدہ سنبھال لیں تو اسلامی اصول پاکستان کے اسلامی نظام
میں اس کی اجازت نہ دیں گے؟ کیا آج بھی خواتین کو ڈاکٹر، دکلا، فٹریٹ
معنی فوجی افسر یا پائلٹ وغیرہ بننے کی ملتوں اجازت نہ ہوگی؟ خواتین

کا یہ بھی کارنامہ کردہ نبیوں کی حیثیت سے کس طرح ملکیوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں قابل ذکر ہے۔ خود اسلام کی پہلی جگہ میں خواتین نے مردم پیش کی، پانی پوچھنا یا اور حجہ ملے مبند کیے۔ تو کیا آج بھی اسلامی حکومت میں آدھی قوم کو مکانات کی چار دیواری میں مقید رکھا جائے؟

گا؟

جواب:-

اسلامی حکومت دنیل کے کسی معاملے میں بھی اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی نہ تو مجاز ہے اور نہ وہ اس کا ارادہ ہی کر سکتی ہے، الگر فی الواقع اس کو چلا نے والے ایسے لوگ ہوں جو اسلام کے اصولوں کو سچے دل سے ہانتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ عورت اور مرد میز و احترام کے لحاظ سے برابر ہیں اخلاقی معیار کے لحاظ سے بھی برابر ہیں۔ آپریت میں اپنے اجر کے لحاظ سے برابر ہیں۔ لیکن دونوں کا رادرہ مل ایک نہیں ہے۔ سیاست بعد ملک انتظام اور فوجی خدمات اور اسی طرح کے دوسرے کام مرد کے دائرہ مل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دائرے میں عورت کو حیثیت دلانے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ یا تو ہماری خانگی زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی جس کی بیشتر زندہ دار یاں عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یا پھر عورتوں پر دہرا ہارڈ الاجائے گا کہ وہ اپنے فطری فرائض بھی انہام دیں جن میں مرد قطعاً شرکیں نہیں ہو سکتا اور پھر مرد کے فرائض کا بھی نصیحت حصہ اپنے اور پرانا نہیں۔ علاوہ اور دسری صورت ممکن نہیں ہے۔ لازماً پہلی صحت

ہی رونما ہو گئی اور مغربی مالک کا تجربہ بتاتا ہے کہ وہ رونما ہو چکی ہے۔ انھیں
بند کر کے دوسرا کی حقائق کی نقل اتارنا عقل مندی نہیں ہے۔

اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دراثت میں عورت
کا حصہ مرد کے برابر ہو۔ کیونکہ اسلامی احکام کی رو سے خاندان کی پرداش
کا سارا مالی بار مرد پر ڈالا گیا ہے۔ بیوی کا مہر اور نفقة بھی اس پر واجب ہے
اس کے مقابلے میں عورت پر کوئی مالی بار نہیں ڈالا گیا ہے۔ اس صورت میں
آخر عورت کو برابر کے برابر حصہ کیسے دلایا جا سکتا ہے۔

اسلام اصولاً مخلوط سوسائٹی کا فن اف ہے اور کوئی ایسا نظام جو خاندان
کے احکام کو اہمیت رتیا ہو اس کو پسند نہیں کرتا کہ عورتوں اور مردوں کی
مخلوط سوسائٹی ہو۔ مغربی مالک میں اس کے بدترین شاخ "خاہر ہو چکے ہیں۔ لگر
ہمارے لئے لکھ کے لوگ ان شاخ کو بھگتے کے لیے تیار ہوں تو شوق سے بھگتے
رہیں لیکن آخر بھی ضروری ہے کہ اسلام میں ان افعال کی گنجائش زبردستی نکال جائے
جن سے وہ شدت کے ساتھ روکتا ہے۔

اسلام میں اگر جنگ کے موقع پر عورتوں سے مریم پی کا حامی یا گیا ہے تو
اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ امن کی حالت میں عورتوں کو دفتر دل اور خانل
اور کھبوں اور پارلیمنٹوں میں لا کھڑا کیا جائے۔ مرد کے دائر کا عمل میں آکر عورتوں
کبھی مردوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے کہ وہ ان کا مول
کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہیں۔ ان کا مول کے لیے جن اخلاقی اور ذہنی اور صفات
کی ضرورت ہے وہ دراصل مرد میں پیدا کیے گئے ہیں۔ عورت صنیعی طور

پر مرد بن کر کچھ تھوڑا بہت ان اوصاف کو اپنے اندر ابھارنے کی کوشش کرے
بھی تو ان کا دہر انقصان خود اس کو بھی ہوتا ہے اور معاشرہ کو بھی۔ اس کا اپنا
نقصان یہ ہے کہ وہ نہ پوری عورت رہتی ہے، نہ پوری مرد بن سکتی ہے اور
اپنے اصل دارہ عمل میں جس کے لیے وہ فطرتاً پیدا کی گئی ہے ناکام رہ جاتی
ہے۔ معاشرہ اور بیاست کا نقصان یہ ہے کہ وہ اہل کارکنوں کے بجالئے ناہل
کارکنوں سے کام لیتا ہے اور عورت کی آدمی ننانہ اور آدمی مردانہ خصوصیات
بیاست اور بیشیت کو ضرائب کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس سلسلہ میں گفتگی کی چند
سابقہ معروف خواتین کے نام گنانے سے کیا فائدہ۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ جہاں لاکھوں
کارکنوں کی ضرورت ہے کیا اہل تمام خواتین میزدہ ہو سکیں گی؟ الجھی حال ہی
میں مصر کے سرکادی ملکوں اور تجارتی اداروں نے پشاور کی
بیشیت مجموعی ایک لاکھ دس ہزار خواتین جو مختلف مناصب پر کام کر رہی ہیں
بالعموم نامزد اثاثت ہو رہی ہیں اور ان کی کارکردگی مردوں کی پرنسپت ۵۵
نیصد سے زیادہ نہیں۔ پھر مصر کے تجارتی اداروں نے یہ عام شکایت کی ہے کہ
عورتوں کے پاس پہنچ کر کوئی راز را ذہنیں رہتا۔ مغربی مالک میں جاسوسی کے
جنہے داقعات پیش آتے ہیں ان میں بھی ٹھوٹا کسی نہ کسی طرح عورتوں کا دخل ہوتا
ہے۔

عورتوں کی تعلیم سے اسلام ہرگز نہیں روکتا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کو دلوں
جانی چاہیے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ اول یہ کہ ان کو وہ تعلیم خاص طور پر دی
جائے جس سے وہ اپنے دارہ عمل میں کام کرنے کے لیے مہیک مہیک تیار

ہو سکیں اور ان کی تعلیم بعینہ وہ نہ ہو جو اردوں کی ہو۔ دوسرے یہ کہ تعلیم خلوط نہ
ہو اور عورتوں کو زنانہ تعلیم گا ہوں میں عورتوں ہی کے تعلیم دلوائی جائے۔ خلوط
تعلیم کے ملک نتائج سفری ترقی یافتہ مالک میں اس حد تک مانے آچکے
ہیں کہ اب صرف عقل کے اندر ہے ہی ان کا انکار کر سختے ہیں۔ شمال کے طور
پر زند بھی امریکہ میں، اسلام تک شرکیاں جو ہائی سکولوں میں پڑھتی ہیں،
خلوط تعلیم کی وجہ سے ہر سال ان میں سے اوسٹھا ایک ہزار حافظہ نکلتی ہیں
گواہی پیش کل ہمارے ہاں نہ نہیں ہوئی ہے لیکن اس خلوط تعلیم کے نتائج
مانہے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ قیرے یہ کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین
ا یے اداروں میں کام یا چالے جائے جو صرف عورتوں کے لیے ہی خصوص ہواد
مشنا زنانہ تعلیم گا ہیں اور زنانہ ہسپتال دغیرہ۔

ترجمان القرآن، جنوری ۱۹۶۷ء

بے حیاتی کے منظاہر اور قانون اسلام

سوال ۱۔

یہ اسلامی حکومت خواتین کی بڑھتی ہوئی آزادی کو سختی سے
روکے گی؟ جیسے ان کی زیبائش اندیش عریاں بس زیب قن
کرنے اور فیشن کار جان اور جیسے آج کل فوجوں رشکیاں نہایت
بنگ سفت سے معطر بہاس اور غازہ دُسری سے مرتین لپٹے ہر

خود خال اہل شیب و فراز کی نمائش پر سر عام کرتی ہیں اور آج کل
 نوجوان بڑھ کے بھی ہالی دڑھلوں سے تباہ ہو کر شیڈی بجا سین رکھ
 ہیں۔ تو کیا حکومت قانون *Marital homicide* کے ذریعے سے
 ہر سارے غیر مسلم بڑھ کے اہل شہ کے آزاد اور جان کو رد کے گی؟ خلاف
 قانونی پس زادے گی والدین دسویں دسویں کو جرم اذ کیا جاسکے چاہے؟ تو
 اس طرح کیا ان کی شہری آزادی پر غرب نہ ملے گی؟ کیا گرانز گا سیڈٹ
 پوا (APWA) یا دیگر والی، ایم، سی، اے (AWA)
 اہل دالی، ڈبلیو، سی، اے (WAA) جیسے ادارے اسلامی
 نظام میں گوارا کیے جاسکتے ہیں؟ کیا خواتین اسلامی عدالت سے خود
 طلاق لینے کی بجائے ہو سکیں گی اور مرد دل پر ایک سے زیادہ شادی
 کی پابندی آج جائز ہوگی؟ یا خواہ اسلامی عدالت کے رو بہ دہی
 ان کو اپنی اپنے سے (Women's Marriage Act) کرنے کا حق
 حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا خواتین کو یو تھے فیٹیوں، کھیلوں، نمائش، ڈراموں
 ، پچ، فلموں یا مقابله حسن میں شرکت یا (Women Hostel Act)
 دیگرہ بننے کی آج بھی اسلامی حکومت نظر ثقلت کرے گی۔ ساتھ ہی قوی
 کروار تباہ کرنے والے مٹاؤ سینا، خلیں، ٹیلی و شیرن، ریڈیو پر فرش ہوتے
 یا اسٹریاں رسائل دل طریق پر، مولیعی، ناچ و رنگ کی تلقافتی محفلیں دیگرہ کو
 بند کر دیا جائے گا کیا فائزہ اٹھانا ممکن ہوگا؟

اسلام معاشرہ کی اصلاح درستیت کا سارا کام غرض قانون کے ڈنڈے سے نہیں لیتا، تعلیم، نشر و اشتاعت اور راستے عالم کا دباؤ اس کے دراثت اصلاح میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان تمام خواص کے استعمال کے بعد اگر کوئی خرابی باقی رہ جائے تو اسلام قانونی وسائل اور انسانی تدبیر استھان کرنے میں بھی ناکام نہیں کرتا۔ جلد توں کی ہر یا تو اہم بے جوانی فی الواقع ایک بہت بڑی بیماری ہے جسے کوئی سمجھی اسلامی حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بیماری اگر دوسری تدبیر اصلاح سے درست نہ ہو تو اس کا درجہ باقی رہ جائے تو یعنی اس کو ازدروئے قانون روکنا پڑے گا۔ اس کا نام الگ شہری آزادی پر ضرب لگانا ہے تو جو اریوں کو بچپن اور جیب کتروں کو سترائیں دینا بھی شہری آزادی پر ضرب لگانے کے متراود ہے۔ اجتماعی زندگی لازماً افراد پر کچھ پانپدیاں عائد کرتی ہے۔ افراد کو اس کے لیے آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا کہ وہ اپنے ذاتی رجحانات اور دوسروں سے سمجھی ہوئی ہر ایشیوں سے اپنے معاشرہ کو خراب کریں۔

گرلز گاہیڈ (Guido ملحن) کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ اپوا (APWA) قلمرو سکتی ہے بشرطیکردہ اپنے داشتہ عمل میں روکر کام کرے اور قرآن کا نام لے کر قرآن کے خلاف طریقے استعمال کرنا چھوڑ دے۔ (YMCA) عیسیٰ عورتوں کے لیے رہ سختا ہے مگر کسی مسلمان عورت کو اس میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ مسلمان عورت میں الگ چاہیں تو (WWMA) بناسکتی ہیں۔ بشرطیکردہ اسلامی حدود میں رہیں۔

مسلمان ہورت اسلامی عدالت کے ذمیہ نے سے خلیج کر سکتی ہے۔ فتح نماح
 (Judicial Sanction) اور تفرقی (Nullification) کی دوسری بھی عدالت سے حاصل کر سکتی ہے لیش ملکیہ وہ شریعت کے مقرر کردہ
 قوانین کے مطابق ان میں سے کوئی دوسری عدالت سے حاصل کرنے کی بجائز ہو۔
 لیکن طلاق (Divorce) کے اختیارات قرآن نے صریح الفاظ میں صرف
 مرد کو دیے ہیں اور کوئی قانون مردوں کے اس اختیار میں مداخلت نہیں کر
 سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کا نام لے کر قرآن کے خلاف قوانین بنائے
 جانے لگیں۔ پوری اسلامی تاریخ ہبہ رسالت سے یہ کہ اس حد تک اس
 تصور سے نا آشنا ہے کہ طلاق دینے کا اختیار مرد سے سلب کر لیا جائے
 اور کوئی عدالت یا نیچا سُرت اس میں دخل دے۔ یہ تخيیل سید حبیب رپ سے
 چل کر ہمارے ہاں مدد آمد ہوا ہے اور اس کے درآمد کرنے والوں نے کبھی
 آسمھیں کھوں کر رہے ہیں دیکھا ہے کہ یورپ میں اس قانون طلاق کا پس منظر
 (Background) کیا ہے اور وہاں اس کے کتنے بڑے نتائج
 روئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جب گھردار کے سینئٹل نسل کر بزاروں میں
 پسپھیں گے تو لوگوں کو تپہ پھٹے گا کہ خدا کے قوانین میں تسلیم کے کیا نتائج
 ہوتے ہیں۔

مردوں پر ایک سے زیادہ شادی کے معافہ میں ازد دے قانون پابندی
 عائد کرنے یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کا تخيیل بھی ایک بیرولی مال ہے جسے
 قرآن کے جعلی پست پر مدد آمد کیا گی ہے۔ یہ اُس سوسائٹی میں سے آیا ہے

جس میں ایک ہی عورت اگر منکوٹھ بیوی کی موجودگی میں داشتہ کے طور پر دکھی جائے تو نہ صرف یہ کہ فابل برداشت ہے بلکہ اس کے صرامی بچوں کے حقوق محفوظ کرنے کی بھی فکر کی جاتی ہے (فرانس کی شاہی ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر اسی عورت سے نکاح کر لیا جائے تو یہ جرم ہے۔ گویا ساری پابندیاں حلال کے لیے ہیں، حرام کے لیے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ابجد سے لمحی راقف ہو تو کیا وہ یہ اقدار (Values) اختیار کر سکتا ہے؟ کیا اس کے نزدیک زنا خانہ ناجائز اور نکاح قانوناً حرام ہونے کا بھیب دغیریب فلسفہ برحق ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے قوانین بنانے کا حاصل اس کے سوا کچھ نہ ہو گا کہ مسلمانوں میں زنا کار داچ بڑھے گا۔ بگرل فرنڈز اور داشتائیں (Wife Values) فراغ پا میں گی اور دوسرا بیوی ناپیدہ ہو جائے گی۔ یہ ایک الی سوسائٹی ہو گی جو اپنے خرد خال میں اسلام کی اصل سوسائٹی سے بہت رو رکھنے والا مغربی سوسائٹی سے بہت تربیب ہو گی۔ اس صورت حال کے تصور سے جس کامی چاہئے ملھن ہو۔ مسلمان کسی ملھن نہیں ہو سکتا۔

یہاں میرج کا سوال ظاہر ہے کہ مسلمان عورت کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوتا یہ سوال اگر پیدا ہوتا ہے تو کسی مشرک عورت سے شادی کرنے کے معاملہ میں یا کسی الی علیسانی ڈایہ دی عورت سے شادی کے معاملہ میں جو اسلامی قانون کے تحت کسی مسلمان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور مسلمان مرد اس کے عشق نہ بنتلا ہو کر اس اتراء کے ساتھ شادی کرے کہ وہ کسی مذہب کا پابند نہ ہو گا۔

یہ کام اگر کسی کو کرنے ہی ہے تو اسے اسلام سے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسلام کیوں اپنے ایک پروگرام کی اجازت دے؟ اور ایک اسلامی عدالت کا یہ کام کب ہے کہ مسلمانوں کی اس طریقہ پر شادیاں کر دانے۔

اگر ایک اسلامی حکومت بھی یونیورسٹیوں (Youth Festival) اور مکملوں کی نمائشوں اور ملائموں اور رقص و سرگردی اور مقابلہ حسن میں مسلمان عورتوں کو لائے یا ایئر ہوستس (Air Hostess) بنانے کے دل مدد ہنے کی خدمت ان سے لے تو ہم معلوم ہونا چاہیئے کہ اسلامی حکومت کی آضر ضرورت کیا ہے۔ یہ سارے کام تو کفر اور کفار کی حکومت میں آسانی ہو سکتے ہیں بلکہ زیادہ آزادی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔

سینما، فلم، ٹیلی ویژن اور میڈیا تو خدا کی پیدا کردہ طاقتیں ہیں جن میں بجا ہے خود کوئی خرالی نہیں۔ خرالی اُن کے استعمال میں ہے جو انسانی اخلاق کو تباہ کرنے والا ہے۔ اسلامی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اُن ذرائع کو انسانیت کی نلاح کے لیے استعمال کرے اور اخلاقی فساد کے لیے استعمال ہونے کا دروازہ بند کر دے۔

ترجمان القرآن جلد ۵ - حدود - جنوری ۱۹۷۴ء

فتنہ تصویر

سوال ۔

آج کل تصویر دل اور فوٹوگرافی کا استعمال مژرت سے ہے۔ زندگی کے تقریباً ہر شعبہ میں ان کا استعمال ایک تہذیبی معیار بن گیا ہے۔ ہزار کی روکاؤں میں، مکافوں کے ڈرائیوروں میں، رسالوں کے سرینق پر، انجام دل کے کالبوں میں، غرضیکہ جس طرف بھی نکاہِ احتیٰ ہے اس لعنت سے ساتھ ہ پڑتا ہے اور بعض اوقات تو بھی مبدل ہو سکتے ہیں۔ کیا نسوانی تصویر دل کو بھی پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا گناہ ہے۔

جواب ۔

تصویر دل کا فتنہ فی الواقع ایک بلاستہ نام بلکہ سلاپ ہا کی صورت اختیار کر گیا ہے جس کا کوئی ملاجیرے علم میں اس کے سوانحیں ہے کہ بحیثیت مجرمی نظامِ زندگی میں تغیر واقع ہوا دراس نظام کی زمام کاران لوگوں کے ہاتھوں میں ہر جو معاشرے میں تمام منکرات کے ظہور کو رد کر دیں۔ جب تک یہ سلاپ امداد ہے، جو شخص جس حد تک بھی اس سے پچ سکتا ہو بچنے کی کوشش کرے۔ نسوانی تصویر دل کے ساتھ بھی وہی فصل بصر کا معاملہ کرنا چاہیئے جو خود عورتوں کے لیے شرعیت نے لازم کیا ہے، اکیزونکہ جیتی بھاگتی عورت کو گھورنے اور اس کی تصویر کو دیکھنے کے اثرات دنیا کی قریب بھیں۔

ترجمان القرآن جلد ۲۵، عدد ۵۔ اگست ۱۹۶۹ء

رشوت اور اضطرار

سوال :-

(۱) حالت اضطرار کیا ہے؟ کیا اضطرار کے بھی حالات اور ماحول کے لحاظ سے مختلف درجات میں؟

(۲) موجودہ حالات اور موجودہ ماحول میں کیا مسلمانوں کے لیے کسی صورت میں بھی رشوت جائز ہو سکتی ہے؟
اس سوال کا جواب دیتے ہوئے رشوت کی ایک جامع تعریف بھی بیان کر دیجئے تاکہ یہ علوم ہو سکے کہ کس قسم کے عادات، رشوت اور تعریف میں آتے ہیں۔

جواب :-

اضطرار یہ ہے کہ آدمی کو شریعت کی مقرر کی ہوئی حدود سے کسی حد پر ٹکر رہنے میں ناقابل برداشت نقصان یا تکلیف لاحق ہو۔ اس معاملہ میں آدمی اور آدمی کی قوت برداشت کے درمیان بھی فرق ہے اور حالات اور کے لحاظ سے بھی بہت کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس امر کا فیصلہ کرنے کے لئے کون شخص کس وقت کی حالات میں مضر ہے، خود اس شخص کا کام ہے

جو اس حالت میں مبتلا ہو اُسے خود ہی اللہ تعالیٰ سے ٹھہر تے ہوئے اور
آخرت کی جوابد ہی کا احساس کرتے ہوئے پر راستے قائم کرنی چاہیئے کہ
آیا وہ داقعی اس درجہ مجبور ہو گیا ہے کہ خدا کی کوئی حد تواریخے ؟

موجودہ حالات ہوں یا کسی اور قسم کے حالات ارشوت دینا تو ہر حال
حرام ہے۔ البتہ رشوت دینا صرف اس صورت میں بہ نہایت اضطرار جائز
ہو سکتا ہے جبکہ کسی شخص کو کسی ظالہ سے اپنا جائز حق حاصل نہ ہونا ہو اور اس
حق کو چھوڑ دینا اس کو ناقابل برداشت نقصان پنچاہا ہو اور اور پر کوئی ہا اخیار
حاکم بھی ایسا نہ ہو جس سے شکایت کر کے اپنا حق وصول کرنا ممکن ہو۔

رشوت کی تعریف یہ ہے کہ "جو شخص کسی خدمت کا معاوضہ پاتا ہو وہ
اسی خدمت کے سلسلے میں اُن لوگوں سے کسی نوعیت کا فائدہ حاصل کرے
جن کے لیے یا جن کے ساتھ اس خدمت کے سلسلے میں اُن لوگوں معاملات
انجام دینے کے لیے وہ مادر ہو، قطع نظر اس سے کردہ لوگ برضاء رغبت
اسے وہ فائدہ پنچائیں یا مجبوراً۔" جو عہدہ دار یا سرکاری طاز میں تحفے تحالف
کو اس تعریف سے خارج ہٹھرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر وہ تحفہ ناجائز
ہے جو کسی شخص کو سرگزند ملت اگر وہ اس منصب پر نہ ہوتا۔ البتہ جو تحفے آدمی
کو خالص شخصی روایت کی بناء پر ملیں، خواہ وہ اس منصب پر ہٹھیانہ ہو، وہ بلاشبہ
جائز ہیں۔

اسلام اور سینما تو گرافی

سوال :-

میں ایک طالب علم ہوں۔ میں نے جماعتِ اسلامی کے شریخ کا
دینی مطالعہ کیا ہے۔ خدا کے فضل سے مجھ میں نہایاں فہمی و عملی انقلاب
روزناہ ہوا ہے۔ مجھے ایک زمانے سے سینما تو گرافی سے گہری فنی
دلپسی ہے اور اس سلسلے میں کافی صورات فراہم کی ہیں۔ تھیریات
کی تبدیلی کے بعد میری دلی خواہش ہے کہ اگر شرعاً ممکن ہو تو اس
فن سے دینی و اخلاقی خدمت لی جائے۔ آپ بڑاونواز مش مطلع فرمائیں
کہ اس فن سے استفادے کی گنجائش اسلام میں ہے یا نہیں۔ اگر جواب
اشباب میں ہو تو پھر بھی واضح فرمائیں کہ عورت کا کردار پسندہ فلم پر دکھائے
کی بھی کوئی جائز صورت ممکن ہے یا نہیں؟

جواب :-

میں اس سے پہلے بھی کمی مرتبہ یہ خیال ظاہر کر چکا ہوں کہ سینما بجائے خود
جاڑی ہے، البتہ اس کا ناجائز استعمال اس کو ناجائز کر دیتا ہے۔ سینما کے پرستے
پر جو تصویر نظر آتی ہے وہ دراصل "تصویر" نہیں بلکہ پرچمایں ہے، جن طرح
آئینے میں نظر آیا کرتی ہے، اس لیے وہ حرام نہیں رہا۔ وہ عکس جو فلم کے اندر
ہوتا ہے، تو وہ جب تک کاغذ یا کسی دوسری چیز پر چھاپ نہیں جائے، نہ
اس پر تصویر کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ وہ ان کاموں میں سے کسی کام کے لیے

ستھان کیا جاسکتا ہے جو اسے باز رہنے کی خاطر شرعاً میں تصور پر کو حرام کی لیا ہے۔ ان دجوہ سے میرے نزدیک سینما بجاتے ہے خود مباح ہے۔

جہاں تک اس فن کو سیکھنے کا تعلق ہے، کوئی دوچھ نہیں کہ آپ کو اس سے منع کیا جائے۔ آپ کا اس طرف میلان ہے تو آپ اسے سیکھ سکتے ہیں، بلکہ اگر مفید کاموں میں اسے استعمال کرنے کا ارادہ ہو تو آپ اُس سے مدد سکھیں کیونکہ یہ قدرت کی طاقتیوں میں سے ایک بڑی طاقت ہے، اور یہم ہے چاہتے ہیں کہ اسے بھی دوسری فطری طاقتیوں کے ساتھ خدمت حق اور مقاصدِ خیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ خدا نے جو چیز بھی دنیا میں پیدا کی ہے، انسان کی جлан کے لیے اور حق کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہو گی کہ شیطان کے بندے تو اسے شیطانی کاموں کے لیے خوب خوب خوب استعمال کریں اور خدا کے بندے اسے خیر کے کاموں میں استعمال کرنے سے پر ہیز کرتے رہیں۔

اب رہنم کو اسلامی اخراج اور مفید مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا سوال، تو اس میں شک نہیں کہ بغایہ ریسے معاشرتی، اخلاقی، اصلاحی، اور تاریخی فلم بنالے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی جو فواحش اور جنی ہمیجات، اور تعلیم جرائم سے پاک ہوں، اور جن کا اصل مقصد جланی کی تعلیم دنیا ہو۔ یہیں غور سے دیکھیے تو مسلم ہو گا کہ اس دینی روشنی قیامتی ہیں جن کا کوئی ملاجع ملک نہیں ہے۔

اول یہ کہ کوئی ایسا معاشرتی فلم ہانا سخت مشکل ہے جس میں عورت کا بھرے

سے کوئی پارٹ نہ ہو۔ اب اگر عورت کا پارٹ رکھ جائے تو اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں عورت ہی ایکٹر ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں مرد کو عورت کا پارٹ دیا جائے۔ شرعاً ان میں سے کوئی بھی جائز نہیں۔

ہے

وہم یہ کہ کوئی معاشرتی فرمانہ بہر حال ایکٹنگ کے بغیر نہیں بن سکتا۔ اور ایکٹنگ میں ایک عظیم الشان اخلاقی خرابی یہ ہے کہ ایکٹر آئے ملن متعلف میرتوں اور کمر دلروں کا سوانح بھرتے ہوتے ہا لآخر انہا الغرادي کیکٹر بالکل نہیں تو ٹرڈی جد سکے کھو بیٹھتا ہے۔ اس طرح چاہے ہم فلی ڈراموں کو معاشرے کی اصلاح اور اسلامی حقوق کی تعمیر و تبلیغ ہی کے لیے کیوں نہ استعمال کریں؟ ہمیں بہر حال چند انسانوں کو اس بات کے لیے تیار کرنے پڑے گا کہ وہ ایکٹر بن کر انہا الغرادي کیکٹر کھو دیں۔ یعنی دوسرے الگاظ میں اپنی شخصیت کی قربانی دیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے کی بجلائی کے لیے، یا کسی دوسرے مقصد کے لیے، خواہ وہ کتنا ہی پاکیزہ اور بلند مقصد ہو، کسی انسان سے شخصیت کی قربانی کا مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ جان، مال، علیش، آرام، ہر چیز تو قربان کی جاسکتی ہے اور مقاصد عالیہ کے لیے کی جانی چاہیے، مگر وہ قربانی ہے جس کا مدلہ بپڑے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی نہیں کیا ہے، کیا کہ کسی اور کے لیے اس کا مقابلہ کیا جاسکے۔

ان وجہوں سے میرے نزدیک سنجائی طاقت کو ڈراموں کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طاقت اور کس کام میں لائی جاسکتی ہے؟

میرا جواب یہ ہے کہ ڈرائیور کے سو اور دس سو بہت سی چیزوں میں جو فلم میں رکھائی جاسکتی ہیں، اور ڈرائیور کی ہنسیت بہت زیادہ منفید ہیں۔ مثلاً، ہم جغرافی فلموں کے ذریعہ سے اپنے عوام کو زمین اور اس کے مختلف حصوں کے حالات سے اتنی وسیع واقعیت بھی سنبھال سکتے ہیں کہ گویا وہ دنیا مجرک سیاحت کر آئے ہیں۔ اسی طرح ہم مختلف قوموں اور ملکوں کی زندگی کے بے شمار پہلوؤں کو رکھا سکتے ہیں جن سے ان کو بہت سے سبق بھی حاصل ہوں گے اور ان کا نقطہ نظر بھی وسیع ہو گا۔

ہم علم ہدایت کے حیرت انگیز حقائق اور مشاہدات ایسے روپ طریقوں سے پیش کر سکتے ہیں کہ لوگ شہوانی فلموں کی روپیਆں بھول جائیں، اور پھر یہ فرماتے ہیں آموز بھی ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر توجید اور اللہ کی ہدایت کا سکتا بیٹھ جائے۔

ہم سائنس کے مختلف شعبوں کو سینما کے پردے پر اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ عوام کو ان سے روپی بھی ہو، اور ان کی سائنسی معلومات بھی ہمارے اندر گزت بھوٹوں کے معیار تک بلند ہو جائیں۔

ہم صفائی اور حفظ این صحیت اور شہرستی (وہ نہاد) کی تعلیم ٹڑپے روپ انداز سے لوگوں کو درے سکتے ہیں جس سے ہمارے دیہاتی اور شہری عوام کی صرف معلومات ہی وسیع نہ ہوں گی بلکہ وہ دنیا میں السلوک کی طرح جیسے کا سبق بھی حاصل کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے منفید نمونے بھی لوگوں کو دکھان سکتے ہیں تاکہ وہ ان کے مطابق اپنے گھروں اور اپنی بستیوں اور

اپنے اجتماعی زندگی کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔

ہم مختلف صنعتوں کے ذریعے، مختلف کارخالوں کے کام، مختلف اشیاء کے بننے کی کیفیت، اور زراعت کے ترقی یا فتوح طریقے سنیا کے پر دے پرد کھا سکتے ہیں جن سے ہماری صنعت پیشہ اور زراعت پیشہ آبادی کے میبارہ علم اور میبارہ کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔

ہم سنیا کے تعلیم بالغان کا کام بھی لے سکتے ہیں اور اس کام کو اخراج پر نیایا جاسکتا ہے کہ ان پر حکومت اس سے ذرا نہ اگتا ہیں۔

ہم اپنے حکومت کو فتن جنگ کی، بولڈنیس کی، گورنلادار فریکی، گلیوں اور کوچوں میں دفاعی جنگ لڑنے کی، اور ہوانی حملوں سے تحفظ کی ایسی تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بہترین طریقے پر تیار ہو سکیں نیز ہوائی اور بحیری لڑائیوں کے حقیقی نقشے بھی ان کو دکھا سکتے ہیں تاکہ وہ جنگ کے عملی حالات سے پیشگی باخبر ہو جائیں۔

یہ، اور ایسے ہی بہت سے دوسرے مفید استعمالات سنیا کے ہو سکتے ہیں۔ مگر ان میں سے کوئی تجویز بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابتداؤ حکومت کی طاقت اور اس کے ذرائع اس کی پشت پر نہ ہوں۔ اس کے لیے اولین ضرورت یہ ہے کہ عشق بازی اور جرام کی تعلیم دینے والے فلم یک لخت بند کر دیجئے جائیں کیونکہ جب تک اس شراب کی نت زردی نوگوں سے چھڑائی نہ جائے گی، کوئی مفید چیز اُن کے منہ کو بخوبی نہیں ہوں گے۔ دوسری اہم ضرورت یہ ہے کہ ابتدائی مفید تعلیمی فلم حکومت کو خود اپنے سرٹی

سے تیار کرنے ہوں گے اور ان کو عوام میں مدد اور دعائیں کی کوشش کرنے چکی، یہاں تک کہ جب کار و باری حیثیت سے یہ فلم کامیاب ہونے چکیں گے تو بھی سرمایہ اس صنعت کی طرف متوجہ ہو گا۔

(ترجمان القرآن - ذی القعدہ ۱۴۳۶ھ - مطابق اگست ۱۹۵۷ء)

دعا میں نذر گوں کی حُرمتؐ کا جاہ سے توسل

سوال :-

میں نے ایک مرتبہ دریافت کی تھا کہ بجا ۰ فلاں یا بھرمت
فلاؤ کہ کہ خدا سے دعا کرنے کا کوئی شرعی ثبوت ہے یا نہیں؟
اپنے نے جواب دیا تھا کہ الگ چہ اہل تصوف کے ہاں یا ایک علم
مول ہے لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل معلوم نہیں ہو سکی۔
میں اس سلسلے میں ایک آیت قرآن اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں
سورة البقرہ میں اہل کتب کے ہارے میں آیا ہے وَ كَانُوا مِنْ قَبْلِ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الظِّيْنِ كھروا۔ (یعنی بخششِ محمدی سے پہلے
یہودی کفار کے مقابلے میں فتح کی دعا میں، انکا کرتے تھے۔ اس
کی تغیریں امام راغب ریاضۃ الرحمۃ میں فرمایا ہے ای یتنعوون
اَللَّهُ بِعَذَّةِ مُحَمَّدٍ (یعنی بخششِ محمدی کے ذریعے اللہ سے
مدعا نہیت تھے) وَ قَيْلَ كَانُوا يَقُولُونَ اَنَا لَنْتَصُو بِمُحَمَّدٍ

علیہ السلام علی عبدۃ الاوثان (اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہو یا
یوں کہتے تھے کہ ہم کو بت پرتوں کے مقابلے میں محمد علیہ السلام کے
زر لیجے سے نصرت نہیں جائے گی) و قیل یطلبون من اللہ
بِذکْرِهِ الظَّفَرُ (اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعہ اللہ
سے فتح انتھتے تھے)۔

ترمذی شریف کے ابواب الدعوات میں ایک حسن صحیح غریب
حدیث مردی ہے کہ ایک نبیا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ
یہی تکلیف کو دور کر دے۔ آپ نے فرمایا الگ قسم چاہو تو میں دعا
کروں اور الگ صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو۔ صبر تھارے یہی ہتھ ہے۔ اُس
نے عرض کیا آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے اُسے اچھی طرح دعا کرنے
کا حکم دیا اور یہ دعا پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اللهم انی اسٹلک
و اتو جہے الیک بنیہ لٹ محمد بنی الرحمۃ۔ انی توجہت
بِكَ انی دربی فی حاجتی هذلا لست قصی لی۔ اللهم نشفعه
فی۔ (خدایا اینی تیرے نبی محمدؐ نبی کے ذریعے سے تجوہ سے دعا
کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ میں نے اپنی اس حاجت
کے لیے اسے پروردگار تیری طرف توجہ کی ہے تاکہ تیری حاجت
پوری کرے۔ پس اسے اللہ امیرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
رشیحت قبول فرمادیں۔)

کیا اس آیت اور کس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ دُعا
میں مجرمت سید المرسلین یا بجا و بنی ، بلفیل بنی یا ببر کرت حضور کہنا
صحیح اور جائز ہے ؟

جواب ۱۔

آیت ذکرہ کا یہ مطلب یہ رے نزدیک صحیح نہیں ہے کہ یہودی آخرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ کے توسل سے کفار سکے مقابلے میں
میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب وہ ہے جو امام راحب
کے پہلے رد اقوال سے بھی معلوم ہے اور جس کی تائید معتبر روایات سے بھی
ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے یہودی اُن پیشین گوئیوں
کی بجا پر جو آپ کے متعلق ان کی کتابوں میں موجود تھیں، یہ دعائیں مانگا کرتے
تھے کہ وہ بنی آسرے اور بھیر اس کی بدرلت ہیں کفار پر خلیلہ حاصل ہو۔ چنانچہ
ابن شہام کی روایت ہے کہ کمر مظہر میں حج کے موقع پر حبیب پہلی مرتبہ مدینہ
کے چند لوگوں سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہوئی اور آپ نے ان کے راستے
اسلام پیش کی تو وہ آپس میں کہنے لگے یا قوم تعلموا و اللہ امنه لنبی الذی
تو عَدَ کمْ جَهَالِیْوَدَ فَلَا تَسْبِقُنَّکُمْ (ج ۱۲ ص ۳) ” لوگوں اجان لوگ
خدا یہ دہی بنی ہے جس کی آمد کا خوف تم کو یہودی دلایا کرتے تھے۔ پس
ایمان ہونے پائے کہ تھے سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچ جائیں۔ پھر اُنگے
جل کر ابن شہام اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انصار مدنیہ کے بڑے
مددجوں کا یہ قول نقل کرتے ہیں :

فِيَا وَاللَّهُ وَفِيهِمْ نِزْلَاتٌ حَذَرَ الْقُصْدَةِ . كَنَا قَدْ عَلَوْنَا حِيمَ
طَهْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمُنْحَنِ أَهْلَ الشَّرِكَةِ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ . فَكَانُوا
يَقُولُونَ لَنَا إِنَّ نَبِيًّا يَبْعَثُ إِلَيْنَا نَبِيًّا قَدْ أَخْلَى زَمَانَهُ . لَعْنَكُمْ
مَعْهُ قَتْلٌ عَادٌ دَارِمٌ - فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ قَرْبَشَةِ فَأَتَيْتُهُنَّا وَكَفَرُوا بِهِ .

یعنی ” ہے آیت ہمارے اور یورپیوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔
جاہلیت میں ہم ان پر غالب ہو گئے تھے اور ہم اپنے شرک تھے اور وہ اپنے
کتاب۔ پس ہم کے دہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب ایک بنی مسیح ہوتے ہوئے
والا ہے جس کی آمد کا وقت آپنیا ہے۔ ہم اس کی فیارت میں ہی کاس طرح ماری
گے جیسے عاد ارم مارے گے۔ مگر حب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو قریش سے مسیح کیا تو ہم نے آپ کی پیروی اختیار کر لی اور انہوں
نے آپ کا اسکار کر دیا ۔ ”

رسی جامع ترمذی کی وہ حدیث ہے آپ نے نقل فرمائی ہے تو اس کا مضمون
تو آپ ہی تبارہ ہے کہ ہستد عابنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی کہ آپ دعا فرمائیں
اور آپ نے ہدایت فرمائی کہ اچھا تو اللہ سے دعا کر کر خدا یا میں تیرے بنی
کے داسٹے سے تیرے حضور اپنی حاجت لے کر آیا ہوں۔ تو میرے حق میں
اپنے بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سفارش قبول کر۔ اس کے حاف معنی یہ ہیں کہ
بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے حق میں دعا فرمائی اور اس سے بھی فرمایا
کہ میرے داسٹے سے تو بھی اپنی حاجت مطلب کر اور میری سفارش قبول سیکے۔

جانے کی بھی دعا مانگ۔ یہ تودعا کی بالکل ایک فطری صفت ہے۔ اس کی
مثال بالکل اتفاق ہے کہ جیسے کوئی شخص مجھ سے کہے کہ فلاں حاکم کے پاس چل
کر میری سفارش کر داد دیں سفارش کرنے کے ساتھ ساتھ اُس شخص سے بھی
کہوں کہ تو خود بھی حاکم سے عرض کر کر میں انہیں سفارشی بنائے لایا ہوں، آپ ان
کی سفارش قبول کر کے میری حاجت پوری کر دیں۔ یہ معاملہ اور ہے۔ اس کے
بر عکس یہ ایک بالکل دوسرا طریقہ معاملہ ہے کہ کوئی شخص مجھ سے اجازت لیے
بغیر خود ہی حاکم کے پاس پنج جلسے اور اپنی جو حاجت بھی چاہے میرا دامتہ
دے کر پیش کر دے۔ اس دوسری صورت کو آخر پہلی صورت پر کیسے قیاس
کیا جاسکتا ہے؟ دلیل پہلی صورت کی پیش کرنا اور اس سے جوانہ دوسری صورت
کا نکالنا درست نہیں۔ دوسری صورت کا جواز ثابت کرنے کے لیے تو حضور
کا کوئی ایسا قول ملنا چاہیے جس میں آپ نے اپنے تمام یو اول کو عام اجازت
مرحومت فرمائی ہو کہ جس کا جی چاہے اپنی ہر حاجت میرا دامتہ دے کر اللہ سے
طلب کر لے۔

(ترجمان القرآن۔ جمادی الاولی ۱۴۳۵ھ۔ فرمودی ۱۹۵۲ء)

نذر و نیاز اور الیصالِ ثواب

سوال :-

راجو کرم مندر جگہ ذیل دو سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں :

(۱) نذر، نیاز اور فاتحہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

(ب) کیا ایک رکاذار کسی ایسے شخص کے ہاتھ بھی اپنا مال فروخت کر سکتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں اُسے یقین ہو کہ اس کا ذریعہ معاش کلیریٹیت فاحشہ کی تعریف میں آتا ہے؟

جواب :-

(۱) نیاز جو غالباً اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، بالکل جائز اور موجب اجر و ثواب ہے۔ اور اگر کوئی الفاق فی سبیل اللہ کہنسے یا کپڑے یا علیتی کی صورت میں اس غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبل فرما کر ہمارے کسی متوفی عزیز کی مغفرت فرمادے یا اس الفاق کا ثواب اُس عزیز کو بخش دے۔ بجا ہے خود اس فعل کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ رہا اس کا عزیز کے لیے نافع ہونا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اس کے لیے نافع نہادے ددشت الفاق کرنے والے کے لیے تو بہر حال نافع ہو گا ہی۔ اگر تلاوت قرآن یا دلی بدلی عبادت کر کے آدمی یہ دعا کرے کہ اس کا ثواب اُس کے کسی متوفی زیز کو پہنچ جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا الیصالِ ثواب کی شیکل بھی درست ہے یا نہیں۔ بعض الرہنگ کے نزدیک یہ درست ہے اور بعض کے نزدیک سست

نہیں ہے۔ میں متعدد شرعی دلائل کی بنیاد پر موذن خدا کو مسکن کی کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگر کوئی مال یا برد فی عبادت اللہ تعالیٰ کے کیے کی جائے اور نہ گان دین میں سے کسی کو اس غرض کے لیے اُس کا ثواب الصال کیا جائے کہ وہ بزرگ اس ہدیے سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کے مال ہم یہ بھیجنے والے کے سفارشی بن جائیں تو یہ ایک ایسا مشتبہ فعل ہے جس میں جوانہ دعویٰ جوانہ عکسہ گناہ اور فتنہ تک کی سرحدیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملطخ جاتی ہے اور میں کسی پر نہ گا آدمی کو یہ مشورہ نہ دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالے۔

وہی دہ کھانے جو مریخی کسی بزرگ کے نام پر لپکائے جاتے ہیں، اور جن کے متعلق بالفاظ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، اور جن کے متعلق لپکانے والے کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ ایک نذر رانہ ہے جو کسی بزرگ کی روح کو بھیجا جاوے ہے، اور جن سے متعلق ہمارے ہاں طرح طرح کے آداب مقرر ہیں اور یہ حرمتی کی مختلف شکلیں منوع قرار پاٹی ہیں اور ان نیازوں کی بہ کات اور فوائد کے متعلق گہرے عقائد پائے جاتے ہیں، تو مجھے ان کے حرام اور گناہ ہونے بلکہ عقیدہ تو حیدر کے خلاف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

(ب) اگر حرام ذریعہ معاش رکھنے والا شخص کسی دکاندار سے کوئی چیز فرمیں گا چاہے تو دکاندار کے لیے اس کے نیجے ہیں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ دکاندار کے پاس جس راستے سے قیمت پہنچے گی وہ حلal ہے۔ گندگی اور حرمت پہنچے ہیں نہیں بلکہ کسب معاش کے طریقے میں ہے۔ جس شخص کے پاس حرام

ذریعہ سے پیش آیا ہے، وہ اسی کے لیے حرام ہے۔ دوسرے شخص کو دھمپی
اگر حلال راستے سے پہنچنے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دبجو نہیں ہے۔
ترجمان القرآن۔ ذی القعدہ ۱۳۶۱ھ۔ الست شد ۱۹۵۲ء

نماز کی قصر و فضای

افسوس ہے کہ عرب مالک کے نوحوان نہ تو خود دین کا کافی علم کرتے ہیں اور نہ اور
فقہاء المحدثین میں سے کسی کا ابتداع ہی کرتے ہیں اسی وجہ سے آئے دن ان کے
عجیب عجیب اجتہادات سُننے میں آتے رہتے ہیں۔ سافر کے معاملہ میں امام شافعیؓ
امام احمدؓ اور ایک روایت کی رو سے امام مالکؓ بھی اس بات کا تسلی ہیں کہ جو شخص
کسی مقام پر چار دن یا اس سے زیادہ شہر نے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے پندی نماز پڑھنی
چاہیے۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ کا ملک ہے کہ دس دن یا اس سے
زیادہ شہر نے کی نیت سافر کو مقیم نبادیتی ہے۔ امام اوزاعیؓ ہادی دن کی اولاد ایام اوزاعیؓ
پندرہ دن کی حد مقرر کرتے ہیں۔ علا، اسلام میں سے کوئی بھی اس بات کا تسلی نہیں ہے
کہ اپنے شہر سے باہر مخلک کر کسی دوسرے مقام پر کوئی شخص چاہے ہمیںوں اور بدھوں
رہے مگر وہ سافر ہی رہے گا اور قصر کرنا رہے گا۔ البته فقہارے خرقد کہتے ہیں کہ اگر کوئی
آدمی کسی مقام پر اس طرح رُکا ہوا ہو کہ ہر وقت اس کے کوچھ کر جانے کا امکان نہ
اور شہر نے کی نیت نہ ہو، تو خواہ فہاں اُسے ہمیںوں رُکا رہ جانا پڑے گی قصر کر سکتا
ہے۔ انہی دجوہ سے بُنی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبک میں پندرہ دن اور خیج تک دے

موقع پر مکرر میں اٹھا رہا ورن قصر فرمایا (مسند احمد و ابو داؤد) اور انہی وجہ سے صحابہ کریم کا لشکر آندر بیان کی ہم میں دو ہیئے قصر کرتا رہا۔ (مسند احمد)

یہ بات بھی سخت حیرت انگریز ہے کہ یہ لوگ نماز کی قضائے کے قائل نہیں ہیں۔

حالانکہ چیز بخشنود احادیث سے ثابت ہے اور تمام فقہائے اسلام بالاتفاق اس کے تالیف ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک قابل ذکر فقیہ بھی اس کا قائل نہیں ہوا ہے کہ مذکورے کی قضائے قرار واجب ہے مگر نماز کی قضائے اجوبہ نہیں۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد میں متعدد احادیث حضرت انس رض، ابو ہریرہ رض، احمد البو قتادہ الصادقی رض سے مردی ہیں جن میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز کو انسان بخول جائے یا سوتا رہ جائے اور نماز کا وقت نکل گیا ہو، تو جس وقت بھی اسے یاد کئے یاد و بیدار ہو اُسے دھچکوٹی ہوئی نماز پڑھ لینی چاہیئے۔

یہ تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حکم۔ رہا آپ کا اپنا فعل، تو ابوسعید خدی رض، جابر بن عبد اللہ رض اور عمار بن حصین سے متعدد واقعات مسند احمد، بخاری، مسلم احمد نسائی میں منقول ہیں جن میں وہ بتاتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم احمد صحابہ نے چھوٹی ہوئی نمازوں ادا کی ہیں۔

ایک سفر میں رات بھر چل کر آفریدقت میں فانفلے نے پڑا دیکھا اور اُترتے ہی سب پر نیند غالب ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو اس کی گرمی سے لوگ بیدار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اذان روایت اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ غزوہ خندق میں ایک روز حضرت کی نماز قضائے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت ادا کی۔ اور ایک اور دن اسی غزوہ میں ظہر عصر اور

مغرب کی نمازیں قضا ہوئیں اور ایسے وقت یہ تینوں نمازیں ادا کی گئیں جب کہ شاد
کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہنسنے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ جونز نے
چھوٹ گئی وہ معاف ہے؟

(ترجمان القرآن۔ جولائی ۱۹۶۲ء)
